

1886
Tagebuch
19, 302,
357-381
VIII

A 1000

| km | W | Kilo | W | Kilo |
|---------|-----------------|------|----|------------------|
| em | 3 ¹¹ | 19.8 | 27 | 4.3 |
| | 3 ⁰ | 9.2 | 28 | 5.8 |
| 27/9/87 | 3 ¹ | 12.2 | 29 | 2.5 |
| 27/9/87 | 2 | 13 | 30 | 4.4 |
| 27/9/87 | 1 | 38 | 35 | 3.6 |
| 27/9/87 | 4 | 41.3 | 36 | 27.5 |
| 27/9/87 | 5 | 30 | 37 | 22.0 |
| 27/9/87 | 6 | 36 | 38 | 1.2 |
| 27/9/87 | 7 | 6.5 | 39 | 8.3 |
| 27/9/87 | 8 | 19.3 | 40 | 60 |
| 27/9/87 | 9 | 11.3 | 41 | 44.3 |
| 27/9/87 | 10 | 21.2 | 42 | 44.3 |
| 27/9/87 | 11 | 35 | 43 | 44.3 |
| 27/9/87 | 12 | 22 | 44 | 19.5 |
| 27/9/87 | 13 | 26.8 | 45 | 15.5 |
| 27/9/87 | 14 | 18.3 | 46 | 846.3 |
| 27/9/87 | 15 | 14 | 47 | 699.7 |
| 27/9/87 | 16 | 6 | 48 | 237.5 |
| 27/9/87 | 17 | 8 | 49 | 870 = 664 |
| 27/9/87 | 18 | 4 | 50 | low 118 = 547.18 |
| 27/9/87 | 19 | 5.3 | 51 | 9.5 |
| 27/9/87 | 20 | 11.7 | 52 | 7 |
| 27/9/87 | 21 | 5.5 | 53 | 16 |
| 27/9/87 | 22 | 5 | 54 | 5 |
| 27/9/87 | 23 | 37.5 | 55 | 8 |
| 27/9/87 | 24 | 18.5 | 56 | 4.5 |
| 27/9/87 | 25 | 36 | 57 | 4.6 |
| 27/9/87 | 26 | 77.5 | 58 | 24.5 |
| | | | 59 | 23.0 |
| | | | 60 | 2.3 |

438 100 188 238
92 19

26.5 30 112.5
27.5 31 112.5
28.5 32 112.5
29.5 33 112.5
30.5 34 112.5

26.3 30 111.5
27.3 31 111.5
28.3 32 111.5
29.3 33 111.5
30.3 34 111.5

10.17, 23, 25, 108.3
11.2, 4, 5, 6, 3, 108.8
26.24, 28.39

10.1 27 11.9 50 11.2 28 11.1
X 0.1 20 9 28 11.1 X 11.1 X 11.1 X 11.1
11.1 44 40 11.1 X 53
11.1 X 0.4 19 50 11.1
9.5 0.1 28 X 2.0 9.1 0.2 4 11.1
11.1 0.4 10.8 4 11.1 X 11.1

77.5
30.4
111.9

60
19.8
12.2
2
13

26.8
8
37.5
36

9.2
38
27.5
22.8
19.3

41.3
21.2
12.2

60
22.183
14.5
11.7
5.5
8.3

| | | |
|-------|-----|-------|
| 128 | I | 111.9 |
| 130 | II | 109.0 |
| 126 | III | 107.6 |
| 127.5 | IV | 108.7 |
| 121.5 | V | 108.3 |
| 123 | VI | 105.8 |

108101 C¹⁰

| | | |
|------|---|---------|
| W-I | 2, 3, 5, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | 130°5'K |
| II | 2, 3, 3 ^m , 31-34, 40 | 130°0 |
| III | 1, 8, 36, 37, 47 | 130°0 |
| IV | 4, 10, 11, 38, 48 | 130°0 |
| V | 13, 17, 23, 25, 18, 27 | 129°8 |
| VI | 3 ⁿ , 7, 12, 14, 15, 19-22, 35, 43 | 130°0 |
| VII | 41, 41', 50, 24' (Kaff. II ²) | |
| VIII | 6, 24, 28, 35, 42, 44, 45, 46, 49, 50 51, 51', 51', 52, 52' (Kaff. II ²) | |

2020 y Lindani - p 86 x
 Calaghasi Hamd Eff
 - Dainar f. 2c. n Tariz 3

gl no 19 (e. Shuy 175)

971

(عبدالله بن محمد
بن كمال
بن سفيان)

١١٦١١

١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١
 ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١
 ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١
 ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١
 ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١
 ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١
 ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١
 ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١
 ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١
 ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١ ١١٦١١

(عبدالله بن محمد
بن كمال
بن سفيان)

(عبدالله بن محمد
بن كمال
بن سفيان)

١١٦١١

Dialect

lau mā gedyi ...

ibsir ilā sī tibr ...

ilā hu ...

ilā sī et nēn ...

ma'kam (ma'akim) ...

... ma'gab ...

... ma'kam ...

... mirdim ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

tabun = ...

ikaufe ...

tennūr ...

sekif ...

dawnār ...

semseri ...

Reim ...

vjulle ...

gydr ...

hāt ...

kara' ...

*ābir ...

manādib ...

arim ...

medjell ...

šagb ...

sabba ...

Agricultur ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

vjion ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

... ma'gab ...

medūh (عيس) abe wher leat
(v. ra)

Kūbe (كوب) egr sura e est
60 a ra d (jekūbūhu)

2 majrib d. 26 f. 210. Sa'ifa

Jekhabū (جكح) 2 y b - (Dama)

ker'al (Dama), Majrib (ج) aūgūn

šā'ā'if (شعاع) Sa'ad (سعد) S'fūnā'fraz

Mahdjan (محجن) { roll. Apru }

Mesbeli (مصيلي) { roll. Apru }

Mutw (موتو)

Kasab - Krugel

šarf (شرف) = Krugel, 20, 100

Gurr (Gurr) abe p' d. Sa'ia, az

10 a ch 30. 1100 bedym

11 r bezm, 22 r a'fū, 27

27 - 11 d 2 jethallit (جثالت)

27 - 11 d 2 jethallit in di Apru

Mad'afin (مادافين) { Getreid }

Mah'afin (ماهافين) { Getreid }

ah Kāb (أحكاب) (عقبات) { Prüfungen }

an 20 p. Khanlan (خانلان) Tann (تانن)

5. 2. Lifa 14 - 2 Damer wa

Kejt (Kupit) - (Kupit)

gabūn ga'wak iz'ak (مناب) (ناب) (id'at)

šārūs esākōs (شروش) (ساکوس)

šibāk (pl. šabk) (شباك) (شباك) (Fogelwe)

tyrin

Dāma - 2 d. 20 m. Ledja (دما)

Haanān - 1 d. 20 m. 2 d. 20 m.

a - 20 m. 20 m. 20 m. 20 m.

e 20 m. 20 m. 20 m. 20 m.

e 20 m. 20 m. 20 m. 20 m.

e 20 m. 20 m. 20 m. 20 m.

e 20 m. 20 m. 20 m. 20 m.

e 20 m. 20 m. 20 m. 20 m.

Juden in Judäa

20 m. 20 m. 20 m. 20 m.

20 m. 20 m. 20 m. 20 m.

20 m. 20 m. 20 m. 20 m.

20 m. 20 m. 20 m. 20 m.

on p. 20 n. k. a. t. u. t. f. e. r. w. a. n. e. r. u. -
 - m. / s. k. b. - e. d. a. t. d. j. e. b. 'o. n. i. m.
 - e. n. i. f. t. j. o. s. u. a. s. - e. j. u. - t.
 T. a. l. i. u. n. d. u. o. m. n. a. s. h. i. n. i. m.
 e. k. a. t. i. n. i. m. i. w. -

P. 7. m. e. s. K. a. u. k. a. b. a. n. - s. t. a. g. i. -

T. p. a. y. l. u. s. t.

min hâda aula min hâda ?

↓ p. e. s. t. i. t.

amâ hâda ulla hâda ↓ p. e. s. t. i. t.

(= amâ hâda wa ilâ hâda, es. id. eff. m. e. i. s. t. h. e. t. - hâda wa ilâ hâda, s. j. â. h. â. d. a. j. â. h. â. d. a. -)

el bidâ & min ghudwa e. p. u. e. r. -
 nebda' e. nesara' min ghudwa e. p. u. e. r. -

(u. nebtadi s. r. s. b. u. d. - e. i. g. e. s. t.)

bedâ'nâ it. j. a. m. a. n. s. wa f. t. a. m. n. â. e. f. f. i. m.

u. o. e. n. i. f. t. i. t. i. t. - (w. a. i. t. a.)

ana sâ absir, (i) la 'ad bi sê ula sê

- s. o. 'e. b. - d. o. u. e. l. -

'ad fi gîn tincin s. w. m. d. 2 n. a. m.

jesrat (Sarah), jeraawat, jeruh, jear

â jedjê dalkîn - u. o. u. o. p. -

K. t. a. b. e. n. n. e. e. K. t. a. b. e. n. (27/6), s. K. t. a. b. n. â
 = (66) s. 219

je. k. l. a. b. e. n. = 5 (ep) 2 -

te. k. l. u. b. i. n. 8 (p) 2 - (62 Maßrek.)

â. d. e. n. i. s. e. d. j. i. s. (s. e. d. j. i. s.) e. k. t. u. b. o. j. i. -

K. o. r. â. n. = b. r. i. e. f. s. j. 6. K. a. h. t. â. n. e. s. e. e.

r. s. s. 4, e. n. s. y. u. 4 - s. s. u. 100 -

e. s. t. o. b. e. n. u. m. a. h. i. t. m. e. (205)

J. i. d. e. n. j. u. m. u. s. i.

1.) m. s. e. s. e. r. a. b. u. n. n. h. a. b. b. â. n. o. 2, e. o. u. a.
 h. a. s. i. s. e. b. o. t. n. e. n. e. s. s. â. b. (s. e. b. m.)
 s. a. m. e. R. e. d. â.

2.) p. u. o. w. s. i. r. r. A. h. a. l. s. o. u. e. h. a. s. i. d.
 s. e. n. e. u. 'a. r. u. s. 3. s. i. t. â. m. H. â. z. e. p. o. l. n.
 L. e. v. i. i. m.

3.) s. e. L. i. d. â. n. u. s. o. s. s. e. B. a. n. â. n. -
 H. a. d. â. r. s. e. p. t. 2. s. m. a. k. b. a. r. a. l.
 K. o. h. a. n. i. m.

4.) p. k. e. F. e. r. w. a. m. e. M. a. t. â. m. i. n. o. b. -
 - u. - u. - m. i. j. o. s. u. b. t. i. - 2. u. (2 e. 8)
 u. s. s. t. - e. s. t. e. p. h. a. l. s. i. t. u. - s. t.
 u. s. e. F. e. r. w. a. -

A. b. y. s. s. i. n. i. t. t. e. s. i. n. j. i. m. e. n. D. i. a. l. e. c. t.

D. u. b. b. e. (s. t. y. z. u. e. c. c. a), - 120, s. e. m. p. s. -

A. b. y. s. s. i. n. i. m. n. e. p. s. d. u. b. b. e.

d. i. m. m. e. (K. a. h. t. i. t. - a. b. y. s. s. = d. i. m. m. e. t.)

Karbar q = abuff. onber = Ruff

frum
jumbad jib...
nat'ā'a

muftakin sro (u r juncim)

jelatamma

bil'āra

ana ista'at el kitab

istakraft

karadtu fulus

sabbī

subia

saba

mukāl = muhajjar = (r) v ug (or) 2

ana akilak

kotār (darī) = o d h o j o p o g u t t a b

tebt (and tanwa) eš šams n 1/2 n 6¹³
jedj'ar e jedja'ar (جديار) (erhje) d 2 2 6 6

mezgara (مجزرة) (mazā'ir) - 10 f m
masā'im e masā'im (مسائم)

mab'āra (مبايرة) Rāij r f a f a

djarba (دجربة) - r e m j, v b i l i f e n

fatūh (فأط) - r e w d e f i d

mālidj (مليدج) (Mālidj) Mālidj r f a f a

mandjal (ن) Mandjal r f a f a

ma'ādir (ن) Ma'ādir e w s r e f e

sunwā (سوان) - 1 d Durra (r Tam) d j r m g h

fadyī (فادي) = māhwal 1 2 3, r e c o l n
māhwal (مهال) d e 2 3 e w e d i g

mafdir (ن) = mādjil = d r r r r r

daff (داف) d e r r r r r r

halī (هالي) d r r r r r r r

hidj (هيدج) e i r a k n i m m u t

sabb (سب) e i p w a m p f l i g n

al-ajār (الآجر) (n) e l e h o p, e n s a b b w l

maswā (مسوا) (n) e j, e u d r m w l, d j r e d f d

musānwada (مسانودة) (n) e j, e u d r m w l, d j r e d f d

wazā (وازا) (n) d j r e d f d

Garrāma. (غرامة) (n) Ramm (غرم) & Kabāla
 fāra (فرا) (n) obrak ~ 11c
 tidwān (تيدوان) (n) vuy (ن)
 Jubla جبة (n)
 Kahr كهر = pntg, vuy (Chunging)
 rēo = 11c, 11c
 maskūk مسكر & si Kabpasm, 20 (k)
 ta'adas (n) 9 p. plagu
 muvattar مواتر (n) 1 ple ~ 20
 sawālis سواطر (n) Erben, 20 p. k ~ 20
 šūkara شقرا ~ 11c, 11c ~ 11c, 20
 tasākir تاشاقر (n) 11c, 11c ~ 11c
 Luckpfaun
 11c, 11c ~ 11c, 11c
 kasātir كساتير, masātir, kasāit 3
 11c, 11c ~ 11c
 šaras شرس - 1 1/2 (11c, 11c)
 tawātir تواتير = pl. on mantar 1/2
 - 11c, 11c ~ 11c, 11c
 masākir ماشاقر ~ 11c, 11c
 11c, 11c ~ 11c, 11c
 jaksūr جاسور, el hašab, hobret 11c
 11c, 11c ~ 11c, 11c
 mausat ماسات, Hupphalbar, 11c, 11c
 (11c, 11c ~ 11c)

~ 11c, 11c ~ 11c, 11c (n) mausat 11c
 sakan سکان ~ 11c, 11c ~ 11c, 11c
 ~ 11c, 11c ~ 11c, 11c
 hadjar menhūm حادجار منهوم 11c, 11c ~ 11c, 11c
 wakīs وکيس, bafauran Bafauran
 11c, 11c ~ 11c, 11c (n)
 falsas falsas falsas, falsas
 falsa falsas (n) 11c, 11c ~ 11c, 11c
 takasšab تاشاشب (n) ~ 11c, 11c
 11c, 11c ~ 11c, 11c
 11c, 11c ~ 11c, 11c
 temtal (tematit) تمثال (n) ~ 11c, 11c
 11c, 11c ~ 11c, 11c
 šatā شاتا (n) 11c, 11c ~ 11c, 11c
 11c, 11c ~ 11c, 11c
 Raša (n) (11c) 11c, 11c ~ 11c, 11c
 11c, 11c ~ 11c, 11c
 hašam hašama (11c singular) 11c, 11c
 11c, 11c ~ 11c, 11c
 Mašašāšāšā (n) 11c, 11c ~ 11c, 11c
 watan وطان = Grabstein 11c, 11c
 11c, 11c ~ 11c, 11c
 Raša el hašam (11c) (n) 11c, 11c
 11c, 11c ~ 11c, 11c

Manhama ^{هنا} ^{هنا} ^{هنا} (n)

harad ^{هراة} ~ 1, 1000 a 6

Qurab ^{قرب} 15, 146

mubham ^{مبهمة} 1000, 2, 125/100

manham ^{منهم} (n) 1000, 1000, 1000

mafras ^{مفرس} (n) 1000, 1000, 1000

hujut (heid) ^{هجوطة} 1000, 1000, 1000 (n)

hadyar ^{هديار} 1000, 1000, 1000

hadb ^{هدب} (n) 1000

hadyar hurr ^{هديار حور} (n) 1000, 1000, 1000

kakar ^{ككار} 1000

lakka ^{لككا} 1000, 1000, 1000

lasaba ^{لاسابة} 1000, 1000, 1000

sakat ^{سكات} 1000, 1000, 1000

lasaba meksura ^{لاسابة مخرقة} 1000, 1000, 1000

felik (pl. fuluk) ^{فليك} 1000, 1000, 1000

muledid ^{مولى} 1000, 1000, 1000

sabara ^{سبارة} 1000, 1000, 1000

syildil ^{سليدل} 1000, 1000, 1000

gorab ^{غراب} 1000, 1000, 1000

fras ^{فراس} 1000, 1000, 1000

kalalit ^{كلايت} 1000, 1000, 1000

Karari ^{قارار} - Angles

bab ^{باب}, 1000

jam ^{جام} 1000, 1000, 1000

Safil (Suafil) ^{سافل} 1000, 1000, 1000

Mahdzin ^{مادزين} 1000, 1000, 1000

Mahalit ^{مالات} 1000, 1000, 1000

Haradja ^{هراة} (Haradja) 1000

Dahi ^{دهي} (n) 1000, 1000, 1000

sukk ^{سوك} 1000, 1000, 1000

diridj ^{ديريدج} 1000, 1000, 1000

sakf ^{سكف} 1000, 1000, 1000

mezba (meza) ^{مزابا} (n) 1000, 1000, 1000

masabb ^{ماسبب} 1000, 1000, 1000

tawakki ^{تواكي} 1000, 1000, 1000

adaid ^{اديد} 1000, 1000, 1000

takadim ^{تكاديم} 1000, 1000, 1000


sulla ^{سوللا} 1000, 1000, 1000

ez tahis ^{عز تاحيس} 1000, 1000, 1000

12

Lau

Lau



Qasfya
Kerdā 1st w. 2nd Dahki s. Merā =
wa'a 1st w. 2nd Ghilāb
(Sakām)

Zubbād = 2nd ayt' Abdilleh 3rd
w. 2nd Arahā s. Hāsīd, carb
m.

Dakil :

2 Khaulān 12 u + Nau' Djeb of
Dakil - 1 Arahā t. u. e
of 12 Khabr w. 2nd 12 Ma
3rd e w. 2nd

1 me 2 Hadā, Kēfa, Mirrād

(2nd), 2 w. 2 Madhidy e

Madhaly 12th Himjar - 1

Dakiliss 6 2 1, Himjar

Arahā e w. 1 me 2 Swāba 10

Hinnā 10 2 - 1st Abd el wakkal

Rādžik sinān 5 di Nau' Hāl
sa -

Riām : 1st H. 6 2nd 2 3rd -

1st H. 1st 2nd abā Lidjana

(2nd), 2nd w. 2nd Kūfā ibn abī

Tālib s. Sa'id ibn Kais B. al

2 Sirwāh (Arahā) w. 2nd

Ahūn Seneš s. w. 2nd Kūfa

12th -

Sprachliches
te'wal Jū = 2nd gabāst
aul Jū = 2nd, Prof, p. 120
yyāl, djihāl, djihalāt w. 2nd, culāb
ma'ūla - p. e - 2nd, a Prof 12th

Air dōrba für Dfprängen, Bagatton:

Jelkakh, jedrib, jekfiz, jefellit
fo 1st, kifif, jaf, jefellit, thā (12th)

2nd 3rd e, 4th 2nd 1st - 1st Kamsān

12th jemakkinhā es (12th) 2nd 3rd e

1st jehānnit (12th), jenik (12th)

Jesani mismar (12th)

Naura e Jūngū e Jūmā s

e w. Kals: tebī, Kafar 2nd, yōgl 2nd

e w. 2nd bahma 2nd, 1st 2nd 3rd e

e w. Kamsān Jūngū: Hāsī 2nd 3rd e

e w. 2nd bakra 2nd

e w. Follān 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th

e w. = muhra

e w. 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
e w. Jūngū 2nd bagra 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th

e h'afaf ab keb's, (w. d'ar)
e ad' an 'adyma

e h' xeff'and ab d'jiru
p h' Hindin d'jirwa
plural (ew) *جُرّ*

lukhâ (ع) = traifrog (Stätus - den)

wâlid " (rifaf)

hubla *Wunangra* " (p s 38)

h' ad' h'âmela, mah'âmala

rusûd *ع* = g'afu min!

netwakkal (ala allah) " "

min sik, el kirâ a Lofun, d' Minif
(. 88)

sik el d'jedr, a e w, b, e w

sike (= sik'kaku) urbru ifw

gn'p'ra, gn'p'ra, d'âmoua
s' Hazra

1) 'ydâr, le = sakn ulw, e z b, a z

y m, b a h y s e t y t - z b y i d

z m - matraf s m -

but ne no s t le (gn'p'ra) s e w d'

ye, o w z s u y t o b'ed, z z

z'f'ic, - d' e o b' e h' u s d'

2) 'ydâr, h, e, o t - s o b' e z, i f e ²³

Amekka - d' t, / z' f' i o u f ~ s d

~ o' p' e z' p' r e - d' p' r. d' p' u a z

z' y d' a r - o w d' y d' a r, e x t' 1

6 1 6 e t' o (p 1 6) = kas'lit)

'ydâr y d' e w - u' y d'âr e d' d'âre

es Hândgriff, Hânddâmon, - i p' e o

z' y e z' o, z' e d' e

z' magrib z u, e, o d' jirra s e g' n e d

m' f' o t, o e z' f' t' s - z' z' e w

2) 'gûlî e 'ghaulî *ع*, ~ z b, a z

u s z' z' o e u, o e d' f' i s e ~ z

z' t' s - o' e p' - o z' b - s a n' a - z' z'

z' o z' e d' j'âmi' m'ensi, e b o z' y t

w, z' u k a t' e l 'g a u l

z' magrib d' i o z' a b m s p e z' (m e d' j e n =

nâ t) s, e, p' t' e d' - i z' p' 1 6 ~ z z'

d' e d' z' e g' o l i' e e z' s, e n d' e l z' z'

z' e o z' b' u t' - e e z' z' e z' e, e l

3) si' l'â e s' a j' j'â d' e t' z' z' z' s' h' y z'

z' o f' r u - e d' z' z' z' e, a d' s' e w

z' magrib y f' z' z' u k u m m e s s' u b' j' a n

z' i t' a e u l' z' o z' z' z' z' e y - u z' h' i a =

[dabellen yet]

4) El Bidä e Budä (y Budda)
 2 - Hagn 210^{no} cl, ad nighole
 40 p 2el m rns m de e on sy,
 2 eel o Hagnkraft 8 im - o v
 ee ju re, p h n q d y 6. 2 q m
 d o W (mukawwa) s ralo
 2 h 16 (p, o, oo se) - ve e A
 won n 216 e s 216 n e qub
 h p cyh h r) p e y v.
 f Hagn e 6 n Tihama m m - o e d
 2 p o r e e U - 6 00 m g f r
 m = mahwit
 5) Ba'it' wal, n 26^o Magreb, ar
 o U 4 p 5 f 6 e, e l f u o u p k a m a n
 lin o f i y 2 - w a n a d p l u d b e n
 2 Damar Ah n n r o s t e f
 7 e 10 p (h n) - e 26 o b e h a m a l
 J e f 4 v H g i n n i e h l ~ - i e d e
 f r m s } 4 2 - w a n a u l t a p l u d b e n
 p g i a n (p l . n g i n n) l u g s e
 n 7 m, e C h a f f g i S u l t a n
 e l e h ' o o
 e u e t f o u r , n a l o n e l A h m a r

W n H. Mukum ; ~ 2^l 7 ginn 2^e 25
 Sei' Abdallah el Hattaf 2 Damar
 ginn 4 o 8 - o n e l e y 10 ~, p d H a f n
 G a z a l l e n . 2 e s e - e m o g i n n p , e x t
 l e t m 2 p v l , e u f o u t e g i a n f 9 8
 2 U s d a e u l l e b 8 r m -
 ~ t e s t i t h (e s o f o) 2 n e u f e r
 p f i d e n f r m g i l l , m o x e d l o w ,
 y p h , u m m , m i s s e p 3 6 m o . v
 g i n n r m s e -

n e w a i d d i u n e p u d d e p (U) 2 s f
 m a t a r = g h a u t (g i f) , a r g e n
 m i z n c i j e }
 a d a n i d a i a l t e l b a g a l (o s o . e d e y f)
 p v o h 2 3 m (e i g m , o o s u r o s t e e
 2 9 e e r o s t e l l e r)
 t u r e i j a (d a n a) 3 e 6 p l u d b e n e H a m b .
 p p o r t e , 2 g i f 2 0 5 4 l u h u d y l e w
 h a d j i z e r i b n , 6 g m i g e n , m r a d f u l l e n
 s a h i l p k i m m , 6 0 p o u l e . h o a . e e e
 2 2 i . e . 5 0 y 4 s m m . - 2 g i f 2 6
 o d m i s t e b g i n n 2 5 p k h a t a t i f (x m s o)
 a b i r g l s w a n a = e t s o a o e a f k y a f e d . l
 g i f e n o i j e e p l e s e x t e 3 2 e a r p l u g l e b

Geographische & Dialekt

Um Kâlid Nö nu^r Um Subjân
yfîd & 'fîd, 'yâr, Sakn (Gyan)

Sprachliches

Rezza 'jî (Djîf) = Khattâf (Sarâ)
= x e pb son (Haben)

Yfîflügel (Djîf) Ferda, Sarâ to s hasra
damûm 'es = Fußboden (Djîf, d' 'lâw)
mit d' a pple yf off r e Khâbal e of
len & 3 4 2. e asâbi, yf e Suwid (m
d' sâlaf e e j' d' yf Khulub, es
Endung - p e t' 2 n o b' d' e gi
& d' Nasindas, a 2 e o r e Khulub
damûm d-

p b e e t' 4' 2' Djîf e r r s d' Moyn
tikân yf

ârid p' l' e Djîf n u^r d' Gedr = Mand
Humb manax

rbut 'jî' = e Holzkalber u Lemk (Gepin)
'Uwâs 'jî' = Erben (Djîf) - e e t' e o

aborta (mantal, musterâh, Mathar)
el so adynâl 'jî' es Blânnont

ee - 2' y f' t' u' Erbenkalber & y s' b' t'
Rathân.

jeh balû = jeh kumû = (Djîf) d' Saubel
p b e s 2-

takaššab 'jîf & w' 10, a r d' 4, r -
u Saun u to e g' e p' m' m' y f' an, t

p b, e d' e u d' e u d' 'j' f' a r' u (Djîf)
kus 'jî, 'jîf = Kirâh 'jî = 2' r e n' Saak

jesharû 'jîf. e r e u d' Morke & f' (Djîf)
shâr, l' e Maunabangig, u r' s' e r' e -

matou 'jî e o' yf, d' yf (Djîf) = saratû
zâd' âleik, o x x' hîg d' l' a, e b' i' g' i' t

'šâhib e d' ahl' 'jî, 'jî e e, e o' 12' 12'
y' s' s' a' e e p' u' j' e d' u' o, e b' t' e' s' i' k' i' n' o' o' f' t'

riswa 'jî, = freudengeld, e r' u' y' f' e' s' -
u' j' e u' t' - o' a' t' k' a' b' a' i' l, e n' 2

Djîf o' u' p' kâda 'jî - e e n' b' e' w' e -
u' u' e d' d' j' i' b' b' a 'jî

el Kâjih 'jîf = e u' p' u' r' e' s' a' t' e' b' i' t' y' Haba
mutawwar 'jî - d' e' y' - j' o) -

'âliân, (Djîf) = 'j' l' a, = 'j' l' a, = mel) sâk' Maab
e o' 2' y' f' j' e' s' i' m' u' u' j' e' s' i' k' u' - j' u' p' u' r' e' d' p' l' e' u' o

lak el kabâ' u' u' 'jîf j' u' e' u' - j' 'j' y' f' e
e o' d' i' g' o' p' i' y' f' 'j' y' u' - (e' d' d' e' b' e' a)


hill 'jî, 'jîf e u' e' d' 'j' e' t' e' s' o' - y' e' f' y' y'

šammū = katabu 'ibq = writing
 šā'ir = nazimān - (šjōf)
 funūt šjōf = bāb šjōf
 šark = Hidjre = 6th Koolimūb
 šarka = midylāb = maidān = 7th, 2W
 kerif šjōf ~ šā'ir šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 kurif šjōf ~ šā'ir šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 mendāh šjōf ~ šā'ir šjōf (felis)
 Mendah an ut a šjōf, mahbas
 wusif šjōf ar šjōf es ar, ar, ar
 4. šā'ir, 2nd šjōf, 1 -
 šā'ir = šā'ir (šjōf) pl. d. maukal = mikrāb
 = šjōf (šjōf)
 šā'ir šjōf = Hintofact = šā'ir
 lajjadu šjōf - jellelū šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 šenā, šabā šjōf šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 šjōf - šjōf šjōf 2nd v. v. šā'ir šjōf 2nd v. v. šjōf
 Kadāja, Kadāk, Kadānā v. v. šjōf
 šā'ir šjōf šjōf šjōf šjōf
 hūlal = šā'ir šjōf šjōf 2nd (šjōf, šjōf, šjōf)
 nāzakū šjōf, 1, 2nd ~ 2W

hasar šjōf = e. Kungul šjōf (m, ut a)
 sahal, nafak šjōf, 1, 2nd ~ 2W (šjōf)
 zahād, zihād, zāhid šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 ālarī šjōf šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 bakalū šjōf, 1, 2nd ~ 2W, 1, 2nd ~ 2W
 maḥār = e. šā'ir šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 šarka = šjōf (šjōf, 1, 2nd ~ 2W)
 ribā' šjōf, 1, 2nd ~ 2W = rabi' šjōf = karibān
 fēš = we, ar, ar, ar, ar, ar, ar
 šenā'ū šjōf, 1, 2nd ~ 2W, 1, 2nd ~ 2W
 dirf = bāb = šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 mendjā, mendja = šjōf šjōf (šjōf)
 mahdjar šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 šēbl šjōf = šjōf = šā'ir (šjōf)
 šarramū šjōf = šjōf šjōf šjōf
 salā'ū šjōf = šjōf šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 madḥa šjōf = šjōf šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 h W -
 Arim šjōf = šjōf šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 mukil šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 nakrayū šjōf, 1, 2nd ~ 2W
 hidr šjōf = šjōf šjōf, 1, 2nd ~ 2W

hidjâb el kîdr كجاء الكدر, or 2 efel
 2^e e 7 e falli e Haam, or 2 e fel
 hadrikt
 Kaur كور = dozff
 'ahanûl jif = leimé = zurböör, vera
 misjâh e misrâh - or 2 y - sij waalera
 om se e - d f se
 ihu cid = jebel - w d f
 hasarû حصاروا or 2 - sanan w
 kîra كيرا 7 Lumpf, var = w f w
 barha بارها = قرها = fronda, pl w
 batha باها, e sawâd, flûzbaten
 hadagû حادجوا = or 2 w, f w
 naukasa نوكسا = 76, var e alas juf
 e e Burr (w) mûdrikt -
 banût = zigul = e Zombriunani, var
 w e ayyâr, arja (el. or. arj), med,
 akwâz se w
 jetra'at جترات (or 2) w 7 e
 hadare حادرة jufaf
 nîr = نير = 2 yaffant
 asla اسلا = عاقر = 2 me y hgt
 2^e e sm, p p f 8. w

dirib دريب, gutta Diftys
 Makdah مكداه ~ Gufaf 3 allfety se 6 g is
 sirâdy شرايح = كرف = Ruff, glind
 Ypra عبرا = قارب = Thrawanthe, ref
 hadadu حدادو or 2 yu, ill-
 nâha ناهة, ناهى = binght e gad'elutij
 bakalû بكالو = تبالو = egnawaffru
 tala'â تالوا trifatan - ling 2, w, 17-
 natas ناطس, m, om
 yssé ايسه = Golyzell, w d ams e amsé
 Kitâb كتاب, e Gufangruppft. juf
 safar سافر = سافر = fori lappu, bnfanin
 duufa دوفو = hin wamig
 Fassâs فاسس = Suf e yug = Snofpu
 da'ama دامه = Mitheljânli 20, 20 Zetha
 nahî ناهى, forigatig
 hâhî حاهى = sahi ساهى
 met'âja = medj'ara = Ort, e Gubriuf, var
 hâgûk (hawâgûk) 7 3 Nagil, (Lijf Karad' e)
 sinne (sin), pl annân, wedyne juf audjâ
 wudya nufaj Nagil

mismâr masâmîr ^{be-it, kalilit (Jof)} Nagel & Eisen
mağlaka ^{20 s 2 2 2 2 2} menedje
mağlaka tafârî ^{1 1 1 1}
Kupf ^{o slylot}
miftah & miftah ^{2 2 2 2 2} Asnan es
^{L-ser}  Nawasil
dâir ^{1 1 1 1 1} - 12 Jof & flonân Nawatife
şfiha Epaningul & n, cerasul
mükâ'ân ^{1 1 1 1 1} = Kuziriny, Stamen
Naks - ^{1 1 1 1 1}

jemsur (masara) ^{1 1 1 1 1} er n = laim Doj
sâ'at ^{1 1 1 1 1} = Mobil, Hängesack, Effneten
w t k f o n e f o
menî ^{1 1 1 1 1} = Mayban = 1
ark ^{1 1 1 1 1} = e Endornif, Grunt, Ländern
Ra'alû'ğes ^{1 1 1 1 1} o 2 (if) bebrigt
şara'û ^{1 1 1 1 1} = auffängen, n. p.
meta' = > i = Dgnip
meti' ^{1 1 1 1 1} & gap x (2 p)
arasa ^{1 1 1 1 1} awf = 1, p. Platz
tubr atbâr ^{1 1 1 1 1} = broy, s. n. m.
b (Noin), a 2 p. smf v. Lauten & c.
San ^{1 1 1 1 1} = Kistfluffein

masfâ ^{1 1 1 1 1} telé. Douifa, Klapp abfluh & d. n.
6 = 20. p. q. v. d. o. n.
mahban ^{1 1 1 1 1} = Ebnul, 6 p. e. Barâkis
20 p. e. k. o. Mathak & Handuk
manham ^{1 1 1 1 1} = Ort, 20 d. d. arborant
widabû ^{1 1 1 1 1} = für fabric gruomman
asnân ^{1 1 1 1 1} = 16 e. Lanza, 6 p. o. j
djaul = hault, 2, 2 = 2 Jofe, arborant
şawnwadû ^{1 1 1 1 1} = 2 (if) e. n. s. i. f.
maswai ^{1 1 1 1 1} = d. n. o. n. t., sonantimpul
hafas ^{1 1 1 1 1} = 10 grzygn
şilla ^{1 1 1 1 1} = m. i. c. h. a. 2, 2 = 1 Kistfl. &
Kantroy, 20 e. 2. h. u. k. d. e. i. f. u. l.
v. h. & f. t. e. 2. x. o. l. l. i. n.
mahwal ^{1 1 1 1 1} = m. i. c. h. o. b. i. f. a. c. t. i. n. 10 e. 20 d.
akkarû ^{1 1 1 1 1} = m. i. c. h. o. b. i. f. a. c. t. i. n. m. i. c. h. o. b. i. f. a. c. t. i. n.
roşafû ^{1 1 1 1 1} = m. i. c. h. o. b. i. f. a. c. t. i. n. s. y. l. i. f. t. e. n.
mishâh ^{1 1 1 1 1} = Lünften, Luft -
dar ^{1 1 1 1 1} = 2. y. l. i. n. g. 2. b. r. ü. n. g. i. n. g. v. p.
Halay ^{1 1 1 1 1} = 2. y. l. i. n. g. 2. b. r. ü. n. g. i. n. g. v. p.
Gruingpfl. - 2. m. a. i. r. e. k. - 2. e. 2. p. o. 2.
Noin waten & autân -

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

mahakkif ^{قيل} = fimbud (قيل) =

lirung (لر) = u r o

Ramañ ^{رامان} - s a (r) l t e r o g u t h g

bâ asir (بأسير) = sâ asir (سأسير)

bâ his ^{بأسير} } 2 2 2 2 2 - 2

bâ aruh } 2 2 2 2 2 - 2

dammaru ^{دما} s 2 2 2 2 2 2

fi ashâbi damarano fi

Mohamad min lahmet musta

liha Beni Kais es. 2 1 2 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lahma Beni Kais, s a 2 2 2

Wadh; bflabd (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2)

Wadh; 2 d 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

wadhî s 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

jhammaru ^{جهمار} s e e brad, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

fannu & gâru -

jellau ^{جلا} = jgabbibu ^{جعببو}

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

jekaukabu = jesarridju = offe

(gnindru) Luft an

Raukab. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

mukaukab = nfre-

Erin ban no ke ul e d jekaukabu

1, e 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

jesebbû = je'allu = wofu

bi haut ^{بهاوت} = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

jekwatu & jehutu s 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

jehuru 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

etib ^{اتيب}

sennib } sennib! want!

istakim, xâ'i

wakkif, itwakka

idylis!

ok'nd

iski

kambir

idju

his ^{هيس}

sir

ihmil ^{ايميل}

ihdil ^{ايديل}

bukk, buk

titzi! 8 P

laufs!

Rub ق = butah

watik = wāḳif و ك ف (wāḳif)

bezzetū 5 2 v naqf ن و ف (bezzetū)

sabbakū " Tag

hadyjamū 5 2 n w i l (hadyjamū)

Kabbarū āla l'adun 5 2 m

ghazzan 5 2 n g i g (ghazzan)

anīarū و ك ا ن ا ر ا و (anīarū)

Rawnamūhum 5 2 o p r y f i d (Rawnamūhum)

Ṭawwarū bil maktūl 5 2

takādou و ك ا د ا و bil maktūl

jenfit bi trāb و ك ن ف ي ت ب ي ت ر ا ب

freī, a ~ Hirt & n j

α mī xer (Ṭazwa) - o s u

ja gārata ja oīdjala

α p Rabilen e 12/2, g o n

79
āb, āb, Allah akbār ālehim

5 n p Rābnā ~ -

ja dīmrata و ك ن ر ا ت ا ja

āiba, ālit! es 5 s y l p u

(es ee ar 2 2 2 2 2), 2 2 2,

El gāre = e k f a r u f ~ n w, 2 a t a g e

gār, jeger = 2 2 2 ~ 2 a n g r a f u

gērū māa! = gār u l 2 (2 n w) es

ibōir ja beōrek bāna 100 s p u

šerredū (šerredū) 5 e d i r

zekin و ك ن ز ك ن } ~ n o, 2 e h d

dikin و ك ن د ك ن }

māḳan و ك ن م ا ك ن } g a d n, 2, w i l e 4

markan و ك ن م ا ر ك ن } n o 2, o r, f i t h s d

mudākana = muzakama = Angriff, Kampf
limma = lihja = dikn = Post

jeħurru { 2^o Graben, asch
jebraħu } 2^o Graben, asch

sälala (pl. sälal) = Säulstein

ħsir = Mörtele s. d. f. d. m. s.

Kadäd, löse mörtele, kalk

ħsäb, Kalk

masäwi } blauer Anisölger
asäbi }

lamän s. d. f. d. m. s.

sös e säus } s. d. f. d. m. s.

wahb = wakhf = Legat

nedr, i = s. d. f. d. m. s.

soħ } Fußboden e Mopfen

saħ } Fußboden e Mopfen

mukaddam } s. d. f. d. m. s.

muahkar } s. d. f. d. m. s.

da'ame (da'ain) } s. d. f. d. m. s.

arkän } s. d. f. d. m. s.

arba' } s. d. f. d. m. s.

Medredy el mueddin e Galasin
17 1/2 1/2 1/2 1/2

nöba, s. auma'a Mopfen s. d. f. d. m. s.

Audär, s. d. f. d. m. s.

Mejädit } blauer Anisölger
s. d. f. d. m. s.

nasab, s. d. f. d. m. s.

mansab } s. d. f. d. m. s.

munassab } s. d. f. d. m. s.

Hinjari s. d. f. d. m. s.

dirm, pl. adräm = Grüst, Collentig
grab, Meijolaüm

s. d. f. d. m. s.

s. d. f. d. m. s.

s. d. f. d. m. s.

s. d. f. d. m. s.

s. d. f. d. m. s.

eskä e eskä } s. d. f. d. m. s.

s. d. f. d. m. s.

s. d. f. d. m. s.

Drumuffarab pp. Alphabet (بيضا)

اب ت ك ج ح خ د ذ ر ل م ن و ه ز ح ذ ح غ
 ج ظ ف ق ز ز ه (ه) ش س لا ي

šarh شرح e šurh = Opelta, Spring
 (Kil, börs) (ش 6)

mašrūh مشرع ill, du 80

Kitbe šurh, Normanschrift, Clan, p
 ez zâmil e Kabalenmarzflind, 16w

o T, s, a, d - nb, J, e - p
 maršād e

sezmilū (سزميلو) ez zâmil o wezje
 silf el Kabâil 10y, Gebrauch d
 silf el Kabâil

Kūz, akwāz كوز } in dnan
 Medella (Janā) مكة } no König
 Kulla alā (Kabalen) }
 e d - 60 w

markūz ماركوز = 5160 e d Sänlan

Kasaf cāš = König, Dflain, Heiba
 māšār = mad hār = ماسار = Monogon, bāš, Monogon

forze فرزه فریز, in Nifisan a Nān =
 dan e fa, 12 0, 15

Sifif, 12 0, 15 22 17 00 e N

Karrest 20 p. Gafagt (f e - 20 se)

dešerū e 2 m, n, m, s Ro -
 nedju ج = 20 0 w e, in monofat

judjezzijū جزون e p. Nafan (p Nafa)

fath فتح = p. d. jing. Dact, - 20 0 0 0 0 0
 Tabatū تباتو = 5 jaher bafarāft, bafarā, e gna

welaui ولوي e flüchtel. Inf -

tawakaha تواقها = 6 2 2 0 0 0 0 0
 ahadū احدو = 2 0 - 1 0 0 0 0 0 0

Kudmī, Kudeimī كدمي, e Gropf, m, p. se -

arabū عربو = alifū = 2, 4, 2 0 0 0 0 0
 e tarabū = 2 0 0 0 0 0 0 0

batu باطو = 5 2 5 10, 15, 20, 25 (gaka)

jestentau جستانو e bapigw, 8 0 0 0

šūr e suār شور, سوار (R 0 0)
 tella اتلا = 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (Zul)

e p. f. 2 m. 0 0 0 0 0 0
 Mahfad m. 2 m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 e Mashaf = Korān

dafan alachim = istafādau alachim = 6 2 0 0 0 0 0
 šarahū شراهو = 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rāba رابو = 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

misfah ^{zū} = wart, unfrucht-
 mendah ^{zū} = ~~gurn~~ ^{zū} = ~~Gebirge~~
~~Armen, Japhanun~~
~~el fluffbank, dyliffhannu~~
 selfa = Gariz = denz
 meshane ^{zū} = mihdāde = Arab, Arab
 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

- 1) tutun himjarī - a c 3 l k m 100
 a) Kabūlī ^{zū}
 b) Terbi ^{zū}
 c) Matna ^{zū}
 2) a) f o k h k a m a n u m e z T a i z
 u n f e r i m - d a T i k a m a (z o u)
 u n f o k
 3) Djebeli ^{zū} & Subspecies
 Khabtī
 1) c p w b o c a k a d a K a u k a
 b a n i p o z j o d z K h a b t
 & T a w i l e
 2) M a s a r i k S a n a C e s a b a S a n a
 1 m m a i p a n p o r e u e m
 1 c h a n p f l a b a k e , a n f i e B o r t -
 K a n m u , a s u d J T u m b e k i
 f a b r i z i n t

Einwohnerzahl Jemens

oky tu ^{zū} 36 ju (Kadawat)
 e n 11 / e f f 45 - 50000 ~ a s m s e
 e n - 1 a f o d u 1,800,000 Luluw
 e n d p m e z S a d a , p m e z c b d a d e n
 p m a s a r i k s H a d r a m a u t s J a m ,
 a c b ~ ~ ~ ~ ~ a s o , s p y i t u m e
 1 v e l e o a k y j o n

hiraf ^{zū} = Kompliment, Armut
 bitad hiraf m o e
 hand ^{zū} = ~ m y , Affaire , p
 fi hand in bitraf , ~ m y
 semil ^{zū} } gewalt
 zaur ^{zū}
 bissemil , bizzaur v i c
 mesmul ^{zū} g r e n z u n g e n
 allah jehabb lak el 'afija (~ o f a l l)
 " jeddī " " " s p r e 109!
 " jetanwal 'umrak } F u r u e n
 " " bi'umrak }
 " jeh djib 'alait (~ j i b)
 " jehanin "
 e n s y p u , a z z i , j - a - J W

mâ dît lau kad sâr
10 2 20, 10 2 100
10 2 20, 10 2 100
hulfi èlî infirîbbârî fâf -

Erkundete Ortschaften etc
(Archäolog)

Osâm - Arab. dab, dabady, Aljân
Rûm - 2 1 1 2 e Kaulat
Mikwân Dje - 1 2 2 2 2 2 2
e Wadis e Dharafât,
Saumân Dje, El 'yânê
Kurâda 2 2 2 2 2 Handjara
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
El Jalima 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Halil j Sid s Nikam, 2 2 2 2 2
Had'a azlî 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rau'as 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rahba 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Zubbâd 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

47
Kânit s j 2 1 2 e Ajâl Abd,
ille n Kaa hedâm, Khab,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(Wyl abû Gânim)

Daâm s j 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
s j 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hirân s j 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lajân ~ mîkaf 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wlêl el Bustân
Jebel Radmân, ~ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Haima
Jem' Ynân elis (4440) 2 1 2 e
Jem' Suleimân 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tawa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ridân 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Yemen - j 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Arbabatun Dsch. & Hausen

epe fce lef. e^{2b}, e^u ~ 222 h^{2b}
 fmäm pt, e. e. t. p. no d. i. v. t. u. i. no. -
 je, a. e. fmäm es wch, e. f. w. e. p. flongy
 u. o. e. ashabih ~ 50 d. n. g. u. l. h.
 cot, a. i. v. t. -
 c. o. o. r. y. v. t. (e. l. i. n. d. i. n. u. f. f. a. N.
 a. u. j. e. n. e. y. f. e. p. n. e. 4. - h. o. y. p. e. y.
 f. e. r. d. i. f. b. 5. d. - b. r. o. u. g. i. n. o. - e. f. y.
 e. T. a. l. i. b. R. i. j. a. m. ~ a. t. T. a. l. a. b. تالاب تالاب تالاب
 ser' gju = küf, (a. l. e. t.) e. f. a. a. r.
 ser' b. i. k. a. r. ~ f. a. a. r. k. i. f. a. t. h. a. k. e. l. b. i. l. l. e. d. i.
 d. u. m. t. دومت = 1. 1. 1. 1. (d. a. i. b. u. n.)
 b. i. l. l. e. a. t. i. ~ d. a. i. b. u. n., d. a. i. b. i. n. g. i. n. u. t.
 m. a. b. t. u. l. y. a. f. u. r. i. s. t., g. r. a. b. i. n. g.
 h. i. d. y. هيدى = d. i. a. m. u. t.
 r. u. w. a. s. رؤواس = - l. H. o. l. y. b. i. n. n. a. h. d. i. n. u. n.
 s. f. a. c. h. e. l. e. w. (s. i. n. g. s. f. i. h. a.) 2. u. 2. d. a.
 u. n. R. u. w. a. s. d. s. a. w. f. e. s. y. w. a. n. z.
 o. o. f. f. e. n. 2. c. o. e. h. Q. u. i. r. f. o. l. z., 6.0
 h. a. l. a. k. هالك 2. b. f. 1. 2. 5. 6.
 m. a. h. h. a. ماهها ~ u. n. o. f. f. e. n. p. f. l. a. g., e. n. a. d. 2. 1.
 h. a. l. i. هالي ~ u. n. o. f. f. l. a. g., a. d. 2. 1. o. f. f. e. n. o. h. i. d.
 K. a. t. a. b. كاتب o. n. 2. b. a. e. K. a. m. a. l. e. n. u. n. t.
 u. e.

51

Arbab an b...
 b. i. l. l. e. z. s. a. g. b., t. e. l. i. m., m. a. r. u. h. (2. 2. 2.)
 s. a. g. b. سأغب = t. e. l. i. m. d. a. i. b. u. n. e. f. u. r. u. f. a. n.
 je, d. e. f. s. a. a. t. u. n. g. e. s.
 b. i. l. l. e. 2. b. n. o. r. g. l. o. -
 t. e. l. i. m. s. a. r. n.
 m. e. r. u. h. (j. e. m. r. u. h.) e. d. a. i. b. u. n. o. d. l. a. s.
 f. e. l. d. e. s., 2. ~ K. l. a. s. s. e. p. w. i. n. g. a. l. e.
 h. i. m. -
 m. e. d. s. i. m. مدسيم (y. e. n. i. o.) = H. a. l. z. a., 5. 2. 1. 6. w.
 1. r. a. u. l. e. n. 1. 6. r. 2. 3. n., 1. d. r. i. b. e. n.
 d. f. 3. e. n. 2. u. n. o. n. d. s. u. z. x. u. - f. h.
 u. f. o. e. p. s. a. a. t. f. i. e. l. -
 M. a. h. a. r. r. ماهارة - l. E. g. g. n., e. d. u. f. e. b. u. n.
 u. n. t. g. r. u. n. d. u. n. w. e. l. -
 A. r. i. m. = 4. E. y. e. R. a. i. n. f. 2. 1. 2. u. N. i. s. s. a. n.
 M. a. h. a. r. r. ماهارة u. n. d. y. e. g. i. r. a. t. (p. h.)
 a. x. t. e.
 m. e. z. j. e. l. e. a. t. i. z. e. = R. a. i. n. f. 2. E. l. a. s. f. e. l. d. e. r. n.
 j. e. z. z. e. l. n. جيزيلن = j. e. k. a. l. l. a. 'a. e. z. z. i. l. o. e. u. n.
 R. a. p. u. s. 2. e. d. R. a. i. n. d. e. n.
 z. i. l. = R. a. p. u.
 A. r. t. u. e. f. e. l. d. e. r. (m. a. l. = f. i. e. l. d.)
 1) A. k. a. r. j. e. s., j. e. a. u. z. R. a. g. u. n. t. h. e.
 2) m. a. s. k. a. w. i. s. s. e. n. e., a. s. d. h. e. 1. 6. r.
 3) m. a. l. a. l. a. t. g. e. i. l. " e. h. b. a. y. 1. 6. r.

65

75

85

95

105

115

Kadh كاذب = blaas

Kadh šahid كاذب شاهيد = Lijerant blaas
2 m, 2 m, 2 m, 2 m

'alaf cels = Jan, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10

wabâl وابل - 1 Unbrant, 60, 50, 40, 30, 20, 10

habib حبيب - 1 Grafta, 60, 50, 40, 30, 20, 10

sâfa سفاهة - 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m
2 m, 2 m, 2 m, 2 m

mathân ماثان } mûfla, 60, 50, 40, 30, 20, 10

mathâ ماثا }
daksik takin - 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m
dyesus ديسوس } mûfla, 60, 50, 40, 30, 20, 10

haris حاريس e w'orl dyesus
e dyesus 60's 1000 m, 1000 m

'asid as - 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m

arûk ارؤك = Grafta mûfla

melûdy ملؤدي = brood s bûx (67)

fhûk فؤك " " s 60's 1000 m

sabâje سبؤج " " s 1000 m
2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m
2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m

melûdy ملؤدي s grafta

matani ماتاني , s 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m

'asid as Dirre, 60

Lhûk لؤك " " s 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m

Sibâni (indian) Sibani (indian)

sullâ s sulla سؤلؤ s سؤلؤ

2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m

2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m

le gha s el d's - (aizô - trigtrag)

s Lhûk s 2 s fût s 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m

Liban, Karât s 1000 m

Rubân رؤبان s Rûmi 121 - 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m

con Trig, 60, 50, 40, 30, 20, 10

e s 1000 m Topf (hârade as)

e met-hel albis 1000 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m

2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m

as 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m, 2 m

Rafk رؤفك s 1000 m s Dirre, - 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m

Jehin جؤين " " s 2000 m, 2000 m, 2000 m, 2000 m, 2000 m, 2000 m, 2000 m, 2000 m, 2000 m, 2000 m

zalâbiy زؤلؤبي (زؤلؤبي) " - 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m

Salit (öl) s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m

râ'ainâ رؤؤينؤ (رؤؤينؤ) s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m s 1000 m

môkad, maupak iço = ~~...~~
imissu ofu u jepe



~~...~~ 15-20 ~~...~~
(Mangal Jis)

Mâbsara = Anganglah, Brill
Arrend iç = fünfzig, y, /
(u rktir)

Kisat (pl. v. Kisa amq) - ksh
y. w. h.

erça' nekallime
nerça' nekallime } = y (C. 2)

hâbr hâr in sâ allah
w. o. t. h. (y. p. r. o. v. o. z.)

Armpfaden

zîw y zis ~ me y w. w.
Asr v. sana

Ghadrân 2 W. Sirr

~~...~~
~~...~~

Vira¹⁰ el Hâdi = 3 šibr (aşbâr) = 65 cw

Vira' el jad = 46 cw

1 Libna = 144 □ Vira' Hâdi (M. 57)

~ 2. v. h. h. 3h - 57 - ...
~ 2. v. e. l. x 100 - 400' -

Ruin

Dubbî ç. SW & Radjau
Radjau v. 16. ... & Sharafât

Kaud & dinge vor Einmarsch der turki Trupper

Dâ mohamad v. Ta'izzija & Hedjeria v.
Hsîn: SW & Sobêha
v. Jemou el a'la (es. di
šfil & Jem)

Hsîn: v. Sâit zhe & zhe v. v. Hâdje
v. zhe zhe & zhe v. v. Hâdje (h. a.)
arhab: 2 Blad Uden, Blad anis,
Haine, Hâdâr, & Mağrûb

Hâsid: Blad Uden, Mağrûb
Bem. Hâjeb: Haine & Harâz (Aniz ista)
Beyt anî Hulerke (S. Khaulan) v. Hobb's (d. a.
šfil)

v. Meğr Abâ Lühum (S. Nehem) v. p. - Hobb's
v. p. & Nehem v. Uden

57
Hâdâr
Sâdâr

July
20
19

Dialect

ent mā ziddi sūffhum 320/2102
 hīde sūff, fūr 20 (at ab)
 hīde el mohla x - fūr - fūr 22 -

Heidaische Klammern um Femez

Seyid Husain ibn Ali el Huti * v. m.
 Seyid s Lāhī (gaf) s 2 nekib
 Abdalwahab Rādīk Senān s
 Arab al pre v.

- 4 ma & Tihāma a s Thi ca:
- 1) Feifa, 16^{te} l & Abu² aris
- 2) Dj. Hser 6-7^{te} l & Feifa
- 3) Beni Khalik 6^{te} l & Feifa
- 4) Beni Munebbih 10^{te} l & Beni Khalik

J Beni Munebbih s Beni Khalik

v. m. s Ab cot. el Dhama

v. m. kat, 10, 218 -

27, 27 2000 m, 2000 m, 2000 m,
 a 2^{te} Beni Khalik, Baum = 3

6^{te} Munebbih m^e

1. 2. 3. 4.

waz gāhirāt wan nejjirāt

o sh - f. 2 e d allat, d. 2 e s, sh
 eka ba s - arabī, e v. 17^{te} m 48
 f. 2 e -
 son s f. 2 e d allat, d. 2 e s, sh
 eka ba s - arabī, e v. 17^{te} m 48
 f. 2 e -
 Mutter ije

Sālim Fā'tima

Mahm Merjam se -

o sh e v. 17^{te} m 48, f. 2 e d allat
 = mohamad

h. 2 e d allat, d. 2 e s, sh
 eka ba s - arabī, e v. 17^{te} m 48
 f. 2 e -
 h. 2 e d allat, d. 2 e s, sh
 eka ba s - arabī, e v. 17^{te} m 48
 f. 2 e -

h. 2 e d allat, d. 2 e s, sh
 eka ba s - arabī, e v. 17^{te} m 48
 f. 2 e -
 h. 2 e d allat, d. 2 e s, sh
 eka ba s - arabī, e v. 17^{te} m 48
 f. 2 e -

h. 2 e d allat, d. 2 e s, sh
 eka ba s - arabī, e v. 17^{te} m 48
 f. 2 e -
 h. 2 e d allat, d. 2 e s, sh
 eka ba s - arabī, e v. 17^{te} m 48
 f. 2 e -
 Hādīt s f. 2 e d allat, d. 2 e s, sh
 eka ba s - arabī, e v. 17^{te} m 48
 f. 2 e -
 ittakilaf
 dinak wa in Runk bidyanbai
 Dhama -

Handwritten notes in the left margin of the right page, including 'Feifa s Beni Munebbih' and 'Tihama s Beni Khalik'.

Handwritten notes at the bottom of the right page, including 'm. 2000 m' and 'H. 2 e d allat'.

~ e, m . n 178 Syid Hussein s Hut -

ka'da ma? so em? ora? orle?

لو = Sabar = Mengin

abl el Khums

sah'dam

~ e, m . n Muzippin, Tausan, Sjazzar
(= Kassab), Kassam

~ e, m . n Kassamin ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n Gabriel Arabia, igt, eo p

~ e, m . n Manna ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n Tamir, abas, bakle s -
~ e, m . n

~ e, m . n ah'dam an me u n sudan s

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n Rughl jir ~ e, m . n Kaurba, o 2 spuff

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

Ruina
Subeira ~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n
s Randa (s Hadakan s Randa)
~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n
Tashum ~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

ma ba haddan = ma bi had = ma bi haddan

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

~ e, m . n ~ e, m . n ~ e, m . n

Ergebnisse in Gatt.
in Kabil:

a u = 26 A e, o / 2 2 2 e f i
mashabaa a a bkum!

a 2 26 x vnt a, o / 2 o y v
mashabaa a bkum, so u Hamaal

gh = safa e f 20 26 3 2

h, 4 26 10 gh 26, e / 2

4 26 mashabaa bkum -

e n y f i

ila ikfa es talady

es s i t e w r o, p b a z f!

a 2 26 y o y s s e e, o / 2

2 2 26 mashabaa bkum f -

f r e z o u o l e z a, s e

e e e (Murakkib) o b 2 26 v i a

2 2 26 x s - g h e 26 e d s, o e e t

S = Murakkib:

ma sauti nahket el hmar

es 2 Ruf = e Bröm s e f!

Dialektisches:

Rutba (aib) = da'am = Säule

dibady z. m. = Nafzhaman

(b. p. d) - 2 Häut, o t d e o - 7 2 1 2

n 2, s h 20 s i e s r (1-2) - 2 2 0

~ Nafzhaman

lissa H. } f e l e g h e s r 2 2 2 2 2

Raman 2, 2 } 2 2 2 2 2

iftakallak (h aftakallak) } 2 2 2 2 2 2 2 2

iftahamlak

istahamlak

Antwort e. Kabilen, p i o v s e l l e m

"ma bih aktar min na'amallah"

istis us, aktar min amel -

Kauredje = - Jod 20 b (Häute, p r e

e o e o)

Neswan ibn Sa'id el

Himjari

Ilm 2 Jani, w f i f Jnäm Ahmed ibn Sa'id

man, - s - Nassama el Jash 2 2

f - o p v l e e Jnäm (27) f l e

D Hut, e D Šaraf s d D
Sa'da, nt & D Sa'nā f -
et 92 h s - D s d Šeff ibā
Si' Tazan . 6h . s D ju p
s 100 - Sa'nā - n er, e gje
d' xer, i n e h Alhoologun Ma,
nt d' d' v' co, s d -

harma = aab (nt h) 6h, d
ju s d 100

Šerif = ju, a aas 100, 6
Gju s d Adin Rellu
re 100 d' is, e d / sādā -

jelidēn (e p) n l' an

Kohta } ~ Korn, Koralin
habbe a }

šerif (šerif) = 1/2 u 1/2

Serā ju s ju = 1/2

šemmīr = 1/8

hamslās = 3/4

bukše (bukāš - pl) = 3/4 Latat

šeffir = Thelus

dās ilā rebī'a = 3/4

Abū Hakkāk = 1/2

2 Tihāma e v' ju 100 u 100 - e e

u 20 7, e ju 15, e d' ju 10,

e ju 5, e m 2, 2, 52 7

bāraer erdibe 1/2 + 1/4 = 3/4 } Dānā
terā = 2 7

banān = banāne = osba' = finger

6 h / ju d' 1, e e s e ju s e e

kebiere, p 2 ju s o usta e

vasta, e m s s gēr -

Saal ausdrücke:

Kijāt, šitā, šurāb, šikār (6, d' d' f

n d' Eratn s d e 100 7)

aije (nadje) e p Nabnā p s Surāb -

šitā mēp, p p u iden, a anten

šitā šitā antignit, d' ju s s s

šitā (jelibatūn) e mēp e širre d' s

šitā (Habit) e d' raffer

šitā e šitā = Niedriggrind

šitā (jelidūn) e e p e d' s (s d' f) Tranten

e d' raffer e s e a

dijēs e d' raffer e f' s s s s s

(6. d' hēme e 1 mag' rēh)

jedukkūn (يدقون) } gr d h P (Sana¹⁵
 jedūmūn (يدومون) } same
 jedūhū (يدوه) } e abjoudon
 medih (مدح) } in Es d Korn
 jesukku (يسقون) e (Hadat)
 e of sukuk (سوق)

esuk jabubi 2 ab d Had-hud
 (2 botas Salomon)

Einführung des Kaffees in Jemen
 durch die Türken

sū iḥ (Kz Temur) . ~ en d messāwa
 ~ et y p d n m d s abijugis
 hje e b h m d v m

allāh jesahhirlak! (Jah) d a e gūh
 (Tigra d n)

ada dja! ~ b i r ~ m n r (S. 245 b)
 J. 38, 100 (p. 1)

Sana, Freitag (P) 7. Juni 1886/69

(1) 586°3 (17°0) , 564°7 (17°0)
 Ruk 586°7 (17°0) 215° Ufzug e. Tages
 Azimut: ab, c, d, e, Nukin 95
 p. d. w. n. a. d. p. d. m. d. n. h. m.
 e. Haulan 43
 d. d. n. — 320

Juhz: 359 32' 20" + 8,6 Recum.
 360 38 40

15^h 34 22 28° 41 40
 36 33 31 15 } 2)

37 57 29 7 20 } 3)
 45 15 33 14 20 } 4)

47 50 33 15 30 } 5)

50 46 35 33 0 } 6)

360 35 10
 355 29 0

56 32 37 57 0 } 7)
 57 28 37 12 50 } 8)

58 33 37 41 40 } 9)

59 45 39 16 40 } 10)

359 29 20
 360 36 15

d. f. 3, 5, 4) d. n. s. d. d. p. d. h. e. d. s. d. 4-10
 W. Ruk + 8,5 K. d. d. d. d. d. d. d.

Antiquitäten aus Tafar
20. Sr. Soc. Mahmud Bey,
Intendant de Tafar

Wazir Tabi ضبي
(جس)



3
~ 2/3 von Tafar
in Tafar, in Tafar Tafar




1844

(42)

1844

Page 358



7 48|10 366

8 367

884

368 9 9 10 369

18|10|11|12|13|14|15

(365-369)

6.7.8.9.10 2-6 x - odden

relief of 5 rows in 2nd v

5 c. 14 cm

11

15|14|13|12|11|10|9|8|7|6

370 Gehänt
auf 365-369

12

371

15|14|13|12|11|10|9|8|7|6

6-12 h²⁰

235 Ginnuf d 2 h²⁰ in medjed (Gaiman)

245 Higgay

255 2te spär. 2^{5 km} Vphane 2 255 v z.

335. 2022 v rlt by mahdjar

340 by Kirwan, قروان

245 Kanel Djuberli, medro spär 77

240 Haid byt el Hadran, 22 m

235 Haid Reime vlt 22 m, 22 m
in ew 2 Hadran

216 2022 spär Hatfa (22 24 spär)

245-250 22270 v rlt 2022 spär Kaifan

258 vlt Tafar, furt 22 22 byt mahjed

265 vlt Kubbi Suarib

220 2022 Menz by Salwa - Beini hatur
22 - Suklan (22)

205 m¹² km by Lemis

195 by Djorban, 2 226 جبران

185 by Hirwe, 2 16 جروه

" Ma'in, 2 20 ad, 2 800"

165 medro 22 22 22 22 22 El Kullaten

120 by Skalit سخاليت

est 22 22 22 by Hadar هادار

125 puce kahr, 115 byt Wutr (22 22) 200

160 2022 22 22 22 22 22 El Kullaten ew Sei'ani

22 22 Djant 22 22 22 22 22

22 22 Gaiman 22 22 22 22 22 22 22 22 22

22 22 byt Wutr, 22 22 Gaiman 22 22 22

22 22 kahr, Skalit, El Kullaten, Hirwe Lemis

Σ 001 Η Κ 4 Η

~ f r a t e r d e J u r i k .
e o s d i g u b i l i s e M u k e i n f r 2 W a
G a i m a n f a s s e b e G e i l S a d a d
e m g s k o n g a e r H a s s e z
L a i d , P E d G a i m a n , 2 z p o m d
G a i m a n m . i p -
e m b i g a s o d a e y , 2 z a i p e
e d j u b e i l e d f r s e e r u o f e
K i r w a n m u e e d j - W a d i
G o d d e G a i m a n i l d e

d i G a i m a n d u l 10 / 1886
2 9 10 m j a -
e f m a n c i a t v z f e
B e y t e l H a d r a m i - e a n d
e d m u s s e W . G j a u b ,
a d i d R e i m e s m n d d j u b e i l e
e d G e i l S a d a d m t -

e e y d j a u b r n e d a G e t a n t
e n m e e s a i a n t v d r e
L e i n r y e f m s i c e u l
e v j - W . G j a u b
G . H o w e u l e m j - 1600
e d e a n - e f 2 m f W . G j a u b
12^e e f e l e h e i l i n g

e m e c v o r p o d d o j o e
e f M i s j a b , d b e h a n t e e f t
e d 2 e 3 e r p o d d o j o e e f t
e d e a n t e r e g t S a t a b i
H o g p i n e d d e y . H a t t e
d j m f - s k u n e p u l . e r a
e d s k u n e p u l -

e e y z h o a n e y . 5^e d j
e e y S a i s e n d (m 3 k e d o c a)
11^e d e X N d S a b a n e f o , e
e S a n e d S e y f a n d - e a - f

n. ju Wadi Sa'san, 2000 m

88 m [unclear]

hejt Sa'ab. 42 m

W. Sa'san, 2 sa'ad

2 11^h 5 m V. C. e. v. ro mädjel

ed durub, e p. n. con. nit

Swir. Co. x Sa'san, n. h. km

W. Sa'san, 2

Jel el Ouis - Sun as 99

W. Sa'san int. - 2000 m

W. Sa'san, 2000 m

W. Sa'san 11^h 57^m - e. e. 2000

W. Sa'san 2000 m

W. Sa'san 2000 m

W. Sa'san 2000 m

W. Sa'san 2000 m

W. Sa'san 2000 m

W. Sa'san 2000 m

Ajuni 2000 m Sa'san

5 H. Kawa s Gaiman, G. ul. (west)

36 H. Medbah (Neni Saham)

46 H. Jahaknan (e. e. 2000 m + 200 m)

344 H. Nukun

150 (4) H. Kanin, 2746 m - 2000 m

Khaulan, e. h. Sa'san - 2000 m

Nod. Co. x H. Kanin, 2746 m - 2000 m

208 (4) W. Sa'san, 212 - 128 H. Makwale

Sa'san, 12^h 20^m 5780 (234), 5532

2000 m, 214, 2000 m, 2000 m

Co. H. Kanin

e. h. Sa'san, e. h. Sa'san - 2000 m

Co. H. Khaulan

Co. H. Sa'san, 2000 m

Co. H. Sa'san, 2000 m

Co. H. Sa'san, 2000 m

Co. H. Sa'san, 2000 m

55
 Le ... de ...
 Djahsi ...
 ... Tihama ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

56
 SE ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

J Higgy wa'lan - 20 a Tub.

Hire to a

2 2150 6 e n of Tawâtil

توالب, 60000 60000 60000

Lahâm - f. Lahâm 2000

2000 2000 2000 Tawâtil 60000

e n of Banque, f. 2000 2000

1000 1000 1000

1000 1000 1000 e n of Sânik

1000 1000 1000 e n of Kuhlâze

Banke, 2 e n of Sânik, 2000 2000

2000 2000 2000

Sânik 2000 2000 2000 Sânik -
wa'lan.

Sânik 2000 2000 2000 Sânik

Sulfa (2000 2000 2000 wa'lan

Sânik) - e n of Sânik 2000 2000

2000 2000 2000

Kohlâze 2000 2000 2000 Higgy - wa'lan 2

Sânik 2000 2000 2000 1/4 2000 2000 Kohlâze

2000 2000 2000 e n of 2000 2000

Halâm (Lahâm) 2000 2000 2000 wa'lan 2

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

Jan

180, z. 2^k ... Husn Mawira

198 Sybil Habbe ... 16^h ...

23 ... Gaiman ...
M. Gaiman

180 ...
198 ...
23 ...
M. Gaiman

Husen el adjam ... as'ad el

Kamil ... Gaiman 1/2 ...
... Nese ...

... Takuk ... Kureha

... Baigan ... Sai'an ...

... Gaiman ... Setfe ...

Karn Sama ... Kab

(36 ... Gaiman ...)
... Akmar

... Mebri ... Lidjam ... Gaiman

... as'ad el ...

... Gaiman ...

... Kabzila ... Kabjala ...

... Nahan Harib ... abâ ...

... Loqwa (= Jarnost) ... Nahan

... Ibillah ... abâ

... Kabila ... Gaiman ...

... Ali Hadi ... Malahim ...

... Nahan (Harib) ...

... Kibla ...

... dyebel ...

... abâ Marib

Kabzila ... Gaiman ...

... Saad detek ...

... Saad ...

... 6 ... 13 1/2 ...

... 10 1/2 ... 9h 40 ...

... 580 ... 5549

... Montag 11/ ... 6h 10 ...

... Husn Mawira

... Kabzila ...

... Kabzila ...

... Kabzila ...

... Kabzila ...

7^h 30 $\text{W} \rightarrow \text{E} \sim \text{SSE}$

2 q of the Huson manir 5^h 18

1/2 Hidar 8^h 10^m

ee q of ...

mikaja ... 5737 (150), 5525

toyer or Jemsan, in 500 ...

to ...

Hidar ... Rus, ...

kan marber - (ee of Suba)

ajim ... Hidar (uvy, vny?)

38 Sedan 2^h 1/2 (Rus)

(Suban or 500 ... Rus)

to Hidar ...

Nisimi, ...

285 q of Nisimi 16^h 1/2

q of ...

120 Suba 2^h 1/2

q of Doban 16^h 1/2

330 q of ee Habba, ...

Hidar ...

...

nekil

q of (Asar 50 ... Hidar)

Wadi El ... Hidar

Ka'el Hake ... Hidar

q of 9^h 15^m, ...

q of ...

2 q of 35 ...

q of ...

q of ...

q of ...

q of ...

q of ...

q of ...

q of ...

q of ...

q of ...

q of ...

q of ...

q of ...

q of ...

q of ...

to 2 bygd Zyādī ud - 2^b ud (200)

ud -

er (- nekil (10^h 40^m) tesleh yeadin.

5678(210), 5590

240 dybl šamsān Lāh dāc

335 " Nedjā el musarima

(arj Hidaas, hekib)

120 Kerjet en neg nekil. In p d d
5.12

ee gh 2 ud 6^h; 10^h 9^m

a L no m ygh & fip Co.

e. h a m n E L 2 E 9 E, 9 n,

St v 11^h 45^m 44 0 0 0 15, az

p 1000 - 300 y n 200^m h -

5740 (250) ur Euk e 20 p -

e. h ud, ud.

12^h 6^m n c - Kerjet en Nakil

ur a m ud ud - e h d ud

22 6^h 5^m Saïla n (oo d Nakil⁹³)

n 2) 5 V c d 7 Kā' Gehrān

257 - 20 n, a n 7 Sar n

12 20^m Saïla n, L c d p

no d f f - e d p n c m 98W

11^h 20^m - n Kā'a 579.5 (252)

e Kā' g j r a b - e Kā' ud

no by d m 9 e 1/2 99E -

بيكار
تفاضل ضفاف

مدار وادع

الزينة
عقبة الجبل
شهران
ميكائل سانتير
عس

قوس القوس قبائل

ضيق القبة

المدار وادع

ماريب - e Kā' g j r a b - e Kā' ud

اب
ذملا
بين

Taf nom - y d' k a y z a y, d' j u o o w,
v l l - m t, 73, 72, 1, 7, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2

m -
p a l c d . l u -

374

X E I O Σ O X E I O 4 E L 4 r o ' y E,
H O L X I G (P I I O Σ H C H I L O X O H B O I D
H I O 4 I B C H I O I I I
O X I L I K C H I U H L S H B O I 4 X X E I I I O I X
U 4 6 O I O H O I 8 C H I O H I 2 6 C H I B H C B I D C H
O H 4 H O I H O I O X I O C H I I I I I I I I I I I I I I I I

(375 + 376)
2 2 eng C
eng C,
a r r r s
p r e t .)

Azim & Taf.

170. wāsita

163. māber

156 Kaulat Saṅātib 'asam (eq w)

c e y m z u b i r o k e u l e p u d i p

190 ybe anwa' عني, nekil Mensije
d a x d Tūran

194. pō Tūran ^{v r b} 2 12 Kai 27 y
(2205) anwa' +

203. sie, 2 12 C H I (2205)

2 p w i d m 360 c h u m

64. Takāt, 2. 2 m, 2. 16 c o u -

360 nekil Teslah (D 9)

340. eey Terāre, nekil p d i u -

2 2 6 d m m p u k ā n -

112 Tafādul, no Takāt 2 broekā'in

h 26 C H I

144. medāre 2 h C, d i c o m a r e

152. Uleib, 2 u k a n e l S a n ā t i b ' A r a t h

163. Tulhāme, e d p u H ā s a r ā n

130. D j. Is S u h e i d m H a d ā m l (2 m)

144. D j. Is h i l r e g y d d , d 3 p

141. D j. El Est

+ Zivāde 2 2 h 2 Tafādul, m 12 C H I

e m f Tafādul; Zivāde 2 h

D j. Halal 2 2, 2 p d 2

(2205) e k ā v o f -

D j. Rūs f Terāre & Hidān

325. ybe kāhire p n E 2 k ā m = - j u d

2 3 3 5, d' nekil p o v e, e y b e m a n z a ' e i j o

f - 2 26 C H I - 2 2 2 h p k ā s u s

2 2 u n 1 7 0

2 2 u n 1 7 0
2 2 u n 1 7 0 e k ā
2 2 u n 1 7 0

125. eey S e n i k a u s (2 2 2 T a f ā d u l 2 2 2)

2 SW + Taf erl sy. Mahad 18
2 furs, mitlaf, -re
2 Taf 4'10"

Wegned Turan (2 Taf)

Taf, Ftail juis, mensije

Turan

e y Ftail + 2 m jo moka

Djahan, 2 g 2 d r n, e y t

2 d wasta, 16' d r n -

m. Ma'ber. 6'10", N c wasta

- u d o r n 7 i t - wasta

- u d o r n Ma'ber u r Taf.

Ay. von Ma'ber

150 wly h d Turan

170 ay. Asam

u d Ma'ber 120" g, 2 r n

Murad 22 - 22 r n f r n p u d

Hidre d m, 2 r n d, 2 r n d

u d r n 2 6'40" u r n 2 7'5"

Hidre, N u r n - 2 kil d y d f r n
f - r n p u d 2 r n d, 2 r n d
n 2 r n d 16" - 2 r n d

Hidre, 8'7" u r n d 2 r n d. 2 r n d

583'4 (190)

2 Ka' d Jehrän

2 r n Ka', 6'12" 2 r n d - 1 r n d -

u d 20' c h, 2 r n d 5-6" Ka' d r n d

2 r n d 2 r n d 2 r n d 2 r n d, 2 r n d

2 r n d - 2 r n d 2 r n d, 2 r n d

2 r n d 2 r n d - 2 r n d, 2 r n d

2 r n d 2 r n d, 2 r n d 2 r n d

2 r n d - 2 r n d 2 r n d 2 r n d

2 r n d - 2 r n d 2 r n d 2 r n d

Rivins in Djahrän
2 r n d

Lekamet (d Jm r n e 2 r n d)

d Kariel en Nekil, Taf, 2 r n d 2 r n d

2 Taf, 2 r n d 2 r n d

2 r n d 2 r n d, Taf d u l y f r n

2 r n d 2 r n d 2 r n d, 2 r n d 2 r n d

2 r n d - 2 r n d 2 r n d 2 r n d

M^o Ynkân O'is, wa L'a Râs Nakîl
Teslah-

to Hunn Mikrâne 2 Wadi'el Bâr in
Leh Selbe, NW & Serâne
to a Râs en Nakîl Teslah
a co 7/10 W. Mr, en W. Gâr
sa en W. Sahâm
to Hidret à'êim - up - r. Kattus
Sjêh Abû Abdallah - fm - m 16
to Serâne
of W. of up en Gâr & Sjêhrân of r
Tekâr, ma'bar, wâsta & - 28 -
of a sikh - 206 - 28, of 5 W. en m 16
Azin. wa Hidret Sjêhrân

6 Ma'rah ma'bar

- 154 Neyt el Keibedî, o & 2 L&E Ma'bar
2 of 12, 2 of 2 - 16 was of 16
356 Wâsta & Taf 30
- 332 Tâil
- 285 w/ 1/2 of Turân
- 10 Tekâr
- 16 Medâre
- 14 Tafâdil o d' a med 200

20 Haribe

- 28 Neyt Mikrân (to Ma'bar)
2 of 10 - 1/2
- 104 & Kaulel Asam
- 10110 e of Asam
- 80 e of Sanât ib
- 148 e of 20 Ma'rah & 1/2 of Samâr
- 172 Harân (to a Hidret Medâre)
- 360 Nakîl Teslah

Dierotey 17/1 1886.

to Hidret 7/10 m - 200
to, 200 Tukâma of 100
to e of 2 - 1000 of Neyt Uban
to 200 m W, 2000 of Dab' a 1/2 m
of 1000 of 1000 - 200 of 1000
Samâr 152 - e of 1000 of 1000
of 2 of 8 18" - 1000 of 1000
Harân of m 2/1 170 -
350 ma'bar
354 Taf

8 Medâre, etc.

12 El Haribe

14 Nysl an Nehmi, etc.

P. a. Takhâma 8'35

9^h 15^m V. c. Nysl Rasid, ~ Lafudorf

2nd 5th 2nd h. 2nd 10th 2nd c.

Takhâma 2nd 198

~ 9^h 15^m 2nd 10th 2nd c. 29'53^m

~ 7^h 15^m 2nd 10th 2nd c. 2nd 10th 2nd c.

~ 7^h 15^m 2nd 10th 2nd c. 2nd 10th 2nd c.

~ 7^h 15^m 2nd 10th 2nd c. 2nd 10th 2nd c.

~ 7^h 15^m 2nd 10th 2nd c. 2nd 10th 2nd c.

~ 7^h 15^m 2nd 10th 2nd c. 2nd 10th 2nd c.

~ 7^h 15^m 2nd 10th 2nd c. 2nd 10th 2nd c.

268. (عربي) 268

280 (عربي) 280

314 (عربي) 314

345 (عربي) 345

350 (عربي) 350

24 Zirâde 21st (عربي) 26th 24

174 Kaulat Asam (عربي) 174

150 شاذب, 1/10th 150

205 Takhâma 205

207 Nysl Rasid 207

245 245

136 136

192 192

178 178

211 211

212 212

213 213

214 214

215 215

216 216

217 217

218 218

219 219

220 220

221 221

222 222

223 223

3
Vj. 2 yb 5, 2 p 0 1, 2 1 5, 1 1 3
Kaus, Tafadil, Dekar 12 j. Jahran,
re & yb e A +, e o j. Hadar 12, val
o 2 wpe 6, e o s o f e j + v u s p 6,
6 2 p 2 - re p. yb 10; 2 u d e p -
e 2 a e j. m e s e e e e e y b m t, re
o r o e, o 2 a d a, a n o f t, e e s s
v y b e, o b o e d, re d u s f b h
e y l o c m a d i b i d o e v t b e j -
g e 2 d + 2 p n s m t n e v p e b e -
2 1/2 m i k e r e m + D a m a r s o h
s u t e l e j 2, 1 p e h e j p T r a b p e -
c o m e d m e d a n e h e i, 3 p e o 3 b p
e 2 s a d o H a r i k e, 2 y l i e b, 2 r m e
e p r e q n e m m i n S a n a t i b e, e
e b e H a i t A s a m e s p e f a s a m, e e
e b e m y e u m t) m e p - 2 x 2 h o b
e R a n g e t q e t j, e o 2 4 3 0 m v h
R i s a b e w e m e s i s e (e s t N E e q e t)
e o 1 x j K a r i s s R i s a b e - e q e t 2 5 b e
o p r e a n y p 2 1 0 m j e o a n m a t / h

10 p 2 l - 2 5 3 0 v h e e j m m o r n e h e
p a e j D a r b (2 e b e m w i n n) s, 3 r a
e r o 2 2 2 5 j u b e 7 k a d e r b, 2 e o
h e r o 2 e k e s e a e v e e e j a h r a n n
K a r i s s D N E j o, s e a e l o e l n N E
j o - v d i k v p k a j a h r a n n e - e e
e 1 2 2 e e t m a m e j o - e o m m
k a d e r b e b e H i r r a n y n e 2 k a
S a m a r, 2 n n j W, e o d v h e j j e f a
e l, w a d i H e r r a n, o e e n N E j o,
e t e 2 e - 2 2 - e n a j e f a e l e 2
e 2 2 m i d j u m s e j e f a e, d h e - 2 n
e j. d i s a n - H i r r a n e e e t (e o o,
d n e e d n e o p k a j a h r a n - e b
e e (j e t) e 2 n p s H i r r a n e o b e d
e - e 2 e i f t p o c e j - e H i r r a n
w e e e e e j o a e v. p 1 D a m a r,
e e 2 e h 3 2 m v h - e e l e p e j, e o
e n e d m y e l x e w, e p e e, e e
e v e n e e n S e m s e r e j e l H a u s
(e e d e n e k a h w e j i S e m e r a t e l
F t e n e) . e - e S e m s e r e e w a k f. e
e 1 5 2 j e s t p i c e, w h e p r e s e n t e
e 7 4 5 m m d e e l e j a p t i e h ~ e

en (Husien) g. Uyleib wot, 1 d. 5 m,
s. n. ve at -

PKA² Damai g. D. wof. g. El Esu
s. 2 g. Jebel 8 h - s. x. d. o. d. m
f. w. a. s. f. b. g. g. Kamin s. n.

h. d. b. v. d. s. Nakil Teslah A
w. d. f. e. g. Turan b. l. g. z.

PKA² g. Jahan. m. p. - f. e. - PKA²
Serb s. Damai. s. e. h. Hiran ve
s. f. i. d. SW n. NE. s. n. y. p. e.
PKA² g. Jahan -

g. o. p. t. w. d. m. g. Hiran m,
w. d. Damai n. 40 m. d. p. 2 (w. l.
40 m. w. p. s. f. -)

Risabe n. o. f. p. w. d. e. y. s. n. Dek
(s. 2 h. d. s. n. w. m. a. e. s. e. N. E. d.
s. 2 w. l.) o. m. -

e. g. El Kame v. n. 1 1/2 km. g. e. d. Dek
f. Risabe s. Dek. w. l. e. d. e. g. Kawas

w. l. e. s. e. b. f. t. m. l. e. h. o. h. a. s. n. 3 km.
s. p. e. e. g. Jefa² - 2 f. e. d. s. Jefa² v. e.
e. g. Dafine (w. i. s. s.) - s. o. f. b. w. d. s. Has-
ran s. W - e. o. s. Jefa² s. n. N. E. s. m. n.

PKA² Damai - PKA² s. e. r. e. v. o. Damai
s. v. PKA² s. a. l. a. s. a. n. (D. m. b.)

f. Kamin s. Teslah - PKA² Kabbelen
- e. o. s. Hada. p. b. (s. m. y. n. s. e. f. e.)
w. g. s. Behan

d. Behan s. Damai;

Behan, Harib, Djuba (N. S. e. h. b. Kimsan; f. s.
e. e. g. Djuba v. m. r. a. d.) e. l. v. n. g. w.
s. g. s. s. a. k. r. a., Kasr Rahabe, Ben el
Husien (s. w. f. Hada s. Kefa), El Masna'a
Kerjet e. g. Dahan, Damai
Behan - Harib:

Beha, El Hadra, Hamata (s. l. o. s.), Marib
Behan s. b. b.:

Behan, Wadi el Mas'abén, Nedjd el Djah,
Nuwab el Baidá (a. e. l. s. a. Reda' e. N. r. e.
s. b.), Malah, Dujt es Sunbuli,
Menzil Sumara, Mah'adi e. (a. s. e. g.)

s. b. b. -
Behan - Reda'

Behan, Wadi el Mas'abén, Nedjd el Djah,
Malah, s. e. l. a. u. d. s. b. s. Reda' s. l. a.

f. Reda' s. n. e. g. e. l. Bait

Bēhān Sanā (S. 90k, Harāb (L. 17) & Harāb (L. 17) (Kark el wusta)

Bēhān, Nedjā markad, Siik Nimrān,
El Hādjar (2 remurād), Kasr Rāhabe
(2 mlād Tolyān), Rā'id (mlād
Bau (S. 1) & Bau (S. 1) Asal (Khaulān)
Rās Meswar, Sanā -

2^L Wags

Bēhān, Nedjā el Djāh, Djāba el Higēm,
Er Rauda, Sanām, Hadūs, Rās
Nedjā Meswar, Sanā -
& Tarik el wusta = el Harāb

Bēhān - Kartaba

Bēhān, W. el Mas'abān Nedjā el Djāh,
Ez Zuwab (S. 1), Amāra, Dant,
Marhāze, Kartaba

~~Bēhān mlād el Hādjar~~

Bēhān, W. el Mas'abān, Nedjā el Djāh,
Ez Zuwab, Dant, Marhāze (2 mlād
es Šajād), Kartaba, Š. Saurak,
Fedret ed Šakkām, Š. Hisā

Bēhān Taffa Harāb (S. 1) 117

Bēhān, Sēl el aūfal, Naḥlat el
Rutab, Harān, Amel, Bēlad
Guneim, Taffa (2 mlād al
Basir (S. 1) & S. 1) (Bēhān, S. 1)

(S. 2 - Mas'abān) & (S. 1) (F. 1)
Damas, Lemera el Harāb (F. 1)

Wednesday, 12/13 January 1886 -

360 35' 40" + 11° 2' R, 579 3 (18' 4)

359 29 40

5 h 17^m 50^s 71° 25' 30"
19 4 70 43 40

20 8 71 8 0

21 17 71 38 40

24 7 73 41 10

25 10 72 57 10

26 1 73 17 10

27 16 74 50 0

+ 11° 4' R 579 2 (18' 4)

360 35 25

359 29 40

from S. & Rashmān in Bēhān

von Damar
 210 v/2 N Kafr El Femen
 wäl kağrib

20 d r N wälân

fo Kafr t tal Usâb sâfil, wa
 mäl kağdir, sâ a mag. b
 ans - p m e l Damar 26 ans -

p sâ (s Mirâd, Tobjân s Kêfa) fâf
 Jerim s Damar nW 10 Kafr - 2 Wadi
 Hâs (o p e s y b l Tihâm a) n 26 SW
 s Damar s o p m t

Karr wäl s Bêhân (Horib) s Redâ

211 v/2 s 2 Bêlâd Kâran, s
 sâ sâ sâ sâ Bunes n m e l Bêhân

El Muserif, Wâdi el Lubb, Za'ti,

El Râkiba, El Djânih, Zebeib s

El Masnâ a Rahabe

212 v/2 Bêhân s Bêhân s Hadrant

Damar, Mittwoch 14/13 Jan 1866

+14.2 R 578.6 (21.5)

359 29' 40"

360 35 40"

7h 52" 45" 108° 15' 50"

44 30 107 13 20

46 6 107 16 50

57 16 108 24 50

58 23 108 27 10

59 20 107 21 0

60 32 107 23 20

61 34 108 29 40

62 22 108 31 10

63 8 108 31 10

64 8 31 50

65 3 31 0

66 0 31 40

67 5 30 45

68 10 29 40

69 18 29 40

70 20 28 0

71 17 26 50

72 23 108 25 30

73 22 107 17 20

74 41 107 14 50

75 52 108 18 40

360 x 0

360 y 0

+14.7 R

578.4 (180)

of Nod & Janā, - 6th & 10th of ...
in ... (y ...)
in ... 2 ...
of Jerim

Maba ...

N^o Heud'ans :

Jyl Jefa' (d^o 2^{1/2}ⁿ; est d' 'Aisan)
at n w 2 Barb (Mankade
(NE, 30^o), est d' Madyid (NE 20^o)
26^o, di Jady 16^o Jax Madyid,
Mawâhib (NE, 2^{1/2}ⁿ), El Khorâbe
(on the Mawâhib, 21 Km), Rahame
(E 2^{1/2}ⁿ), Mâd Djeraşa (E, 5^o)
Mâd el Sag'dari (SE), Ans Salâme
(est d' ...)

~ 112^o of Masri' (SE), M'ad
Tabeid (SE), Jyl ed Dâr (5⁶ 50)
Wâdi el Hâr (red, 4⁶ 20), M'ad es
Sâila -

d' Jefa' & 'Aisan & Kidyem (2 ...
d' Jefa' (Kidyem & NE & ENE
on d' 'Aisan), d' Barb & Jyhrân,
d' Mankade Hadâ, 20 d' Madyid,
20 d' Jady, d' Mawâhib Hadâ, 20
W' Djeraşa on Hadâ, d'
M'ad es Sag'dari & Habbân
d' M'ad Masri' Kâ Teid's
M'ad Redâ, d' M'ad Tabeid &
Habbân, d' Dâr & Salân (neyl ...
on M'ad Jerim 12), d' W. Hâr &
M'ad el Omari (Heud'omar) - d'
M'ad Sâila & M'ad 'Ans -
of M'ad 'Ans 12: ...
Hama ...
di Sahar (W. Sahar) & Jyl Dâr
M'ad es Sâila.

Rumer

Hirân, Kirzet Mas'ade & Hirân,
 Hišwaf & x & Mas'ade, Jât
 Mulennâ ¼ SW & Dâmâr, Mahâli
 NSW 126 Dâmâr & x & Marsaba 22e

ee, Marsaba SW, ¼ 2th & Dâmâr
 Ajimâta d'x, 2th Hirân

325 nekil Teslah (d) e p m h d u r

332 Kaalat Hair' asam (e) w n kâ'p h a n

346 Jyl Kanin

395 u p ½ d k Turân m m w o p

286 e e s e r b h o r e u p p e s
 nekil 7 b n p n e i e
 d e k
 s a m i

250 e e Jefa', 2 b i o v s e r b 9 b r e
 f n h w 2 d e k

250, 2 Jefa' d y' h i s â n

230-250, d Jefa' s a s â n e y' h i d j e m

240-255 n o r e u p p e e d g. magrib
 ans -

193 Hair' amâd, n 2th d p

182 s o n w 2 b i t i d d o m a r i
 (wadi Hair')

150 p 8 Jamâr (it) n ½ b e 1 ½ km ½ p

158 Lublat Ammâs 2 b r i d J e r i m

95 y. El Esî (p 6 v Tabil 22, e e, e u 3 m h)

80 d t p o u n Hair' Tabil

70 d t p - y. s i R a k â m (H a d â)

60 H a w â h i b (3 8 e & D a m â r 1 2 e e r 10 T a b i l 1)

39 e e s i h a d j i d

12 h e n k a d e, 3 9 e

156 D a m â r e l K a r n

126 e e H a n a d, 10 d D a m â r e
 s i m K a r n & D a m â r ½ p

126 e l h i l l e, 6 d D a m â r, n e u e e p

86 R a k a m a

117 u p ½ p R e d â

e e e 2 D a m â r f d J a m â r s H i r â n 2 7
 n b e z, 6 u n 2 d e k o y R a k â m 1 5 5 e

2 2 n h u n h a n k a d e 1 7 0 e

2 0 7 1 0 h a n k a d e s H i r â n

h a w â h i b s R a k a m e n n K â, e t g
 n t, e f y h, -

8 6 d D a m â r 2 p o - p 2, p 9 u o 4

- d J a m â r e l K a r n e t 1 e d t e

cu 2 Sp = W. Bchân (red air!)
p. 1 page de Eb' Wadi Bchân, N
P. 2 page de im Khadi, so Hadi
Amri, Ben Hautan, Said ben
Taleb, al Abderrahman, Ben Sir?
tan
ew. Harib t. Mârib

e Wadi e Hamûm t. p. Mârib
pe 100 m. 9. M. Nimirân
Hamûm t. 2. Redâ t. Harib
~ Redâ - e. c. d. Hamûm t. 2.

~ d. g. 1 ca.
Bchân = e. c. d. Redâ t. p.
al Sureif au Harib t. Bchân
si 2 p. 1 ca.
De la font i

Murâd t. p. p.
de W. Bchân t. Marha (Hadra
ment)

Murâd e. c. d. Hamûm
Wadi Abida t. Harib

PR N. W. t. p. p.

Abrih non Damar, don't say 14/186
2. p. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.
X1 p. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.

cu 2 Samir 3' 12" (es Dargun) 112
45 m. de Samir el Karim
cu 2 p. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.
577' 07' 16' 5) - e. h. e. 2 Wadi
Numere (6, 12) y. e. s. 8. 1 ca.
e. d. Samir Karim y. e. s. 8. 1 ca.
e. d. p. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.
No a. d. + 2/1 - 1/2. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.
24' 53' 21' 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.

25' 50' p. c. Samir e. Numere
y. H. a. (2 p. Abu Jabis 1 ca.
e. h. wadi e. H. a. 1 ca.) 1 ca.
16' 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.
~ 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.
e. d. H. a. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.
e. d. H. a. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.
NW e. NNW e. c. d. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.
e. d. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.
(y. l. p. 1 ca. 579' 8' (u. g.) - p. 25' 20' m

12 - 10/10/20
NW. 1/4 sec 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
12 - 10/10/20
Si Djuzub 1/2 1/2 1/2 1/2

2 6⁵⁶ h
Kaumani
Si Djuzub 1/2 1/2 1/2 1/2

Kaffu Si Djuzub 1752 (215) 7²⁵
7³⁰ - 28⁵ D C - 1/2

(5723, 252) W Si Djuzub
Si Djuzub 1/2 1/2 1/2 1/2

W. Hâr
Burma
Hâr 1/2 1/2 1/2 1/2

12 - 10/10/20
NW. 1/4 sec 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
12 - 10/10/20
Si Djuzub 1/2 1/2 1/2 1/2

2 6⁵⁶ h
Kaumani
Si Djuzub 1/2 1/2 1/2 1/2

Kaffu Si Djuzub 1752 (215) 7²⁵
7³⁰ - 28⁵ D C - 1/2

(5723, 252) W Si Djuzub
Si Djuzub 1/2 1/2 1/2 1/2

W. Hâr
Burma
Hâr 1/2 1/2 1/2 1/2

c & d (2, 4, 10) ... a Haq
... Kōai Kō'ān
(Kō'ān), ... Kō'ān ... dāhiliya
... dāhiliya

... dāhiliya

... Sāri, Htakl ...
... dāhiliya

... dāhiliya
... Sāri, Htakl ...
... dāhiliya

... Sāri, Htakl ...
... dāhiliya

... Sāri, Htakl ...
... dāhiliya

... Sāri, Htakl ...
... dāhiliya

... Sāri, Htakl ...
... dāhiliya

... Sāri, Htakl ...
... dāhiliya

... Sāri, Htakl ...
... dāhiliya

... Sāri, Htakl ...
... dāhiliya

... Sāri, Htakl ...
... dāhiliya

... Sāri, Htakl ...
... dāhiliya

... Sāri, Htakl ...
... dāhiliya

11 a 80 k cft - 5 h 40 m 6 c
 nft - Sera - Sera -
 ey 2 m m - 2 L a m m
 Jey s - rka a b a g a m m
 * x 6 c n f 2 m 2 - r k m
 e 9 10 Sera u t - Sera u d
 m - i r e y s u m (18 2 m v p m)
 2 c e r e k a s y r - (h)
 s u m v o z 1000 m E + Sera - o b
 m t a u a g g m t (5 h 55)
 (e v 2 o d j. Tulmān 2 t m t d
 d j. Zubaid s i d 2 J a g d a a - e c o
 a x j o a l k a s e r a y t o s u m
 s o c c 50 m z u b e i d s j b h a d i
 ' a b a s e i , e e y o r s i d a i (20 z e r e c e)
 2 h 44 m 2 s 2 30 d j k e y d
 d a s l a f i , s j m m f - u r m s ?
 s , d 3 k m n o s j . T u l m ā n - s e r j d
 d e i h s o b y . H a k i s - m o t o d v t h
 s u m s u b a r i
 s e y v o 2 m . H a k i s , d e h s - e c t
 s u m s u b a r i k o n g a t o , h o (e t a f i)
 u y . T u l m ā n (~ 2 1 p o t a j e t d m e y l e s

117
 Subari) - Hakis v 2 5 b p c o -
 8 p u h i x (6 h 50 v 7 h 30)
 m u s p e c d o p u t e e y
 m a s n a a - 1 5 s j 2 n d p r
 m i d y h a e (20 s) h n o u - o
 d s r o m s h e m e y t 2 c o t
 a e o - a m a s n a a v , 1 s j
 m e e y d i f a r d s j 2 h o n 2
 y (c o m p) e u u n g o r
 m i d y h a e y s t

8 20 N c H a k i s , e y d j o c e d
 h p n o b h u e 1 r e d p l e t t f o r m
 s u m s u b a r i m e y t h a u s - a n t
 2 c o t s o e y 5 7 9 . 4 (2 8 0) x y
 2 8 h 1 9 m - a e y s j m a s n a e
 5 30 8
 1 20 s l A d r a , h o s j a + 1 6 m d .
 3 50 K e u b e l L e b e l (s e l d s f e r)
 20 s t j o y . T o b i l
 8 4 s j . e l h a k n a s e , s e d a i m , s j 2 1 s
 s u m (e 2 6) - e i d s j d R e d a

2 Jibul ez Hada
108 Jibul Jerah

155 Jibul Er Raub, 3/4 (9 11 17 ?)
Adra'a et 2/3 f... 4/20

150-200 et 2 Jibul Mioma, 6/10

2 Jibul Hakir et 2/3 et 2/3 et 2/3 Hakir
et 2/3 et 2/3 et 2/3 Haura

95 Jibul Hammal et Sa'tar
et 2/3 et 2/3 Sanabam et Haribel

et Seyd, et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et Adra'a et 2/3 et 2/3 Adra'a et 2/3

et W. Hakir et 2/3 et 2/3 Jerah

336 Jibul et Essi -

320 H. Ber m. Damard, a Hamam ez
Lebil et -

318 et Meifa'at et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et Lebel et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et Hakir et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

11020H014700 377

et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3
et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3 et 2/3

(on - Kaula) - 20 n d
Kā ne, na roha, re
Z - on x v - 4 96 h
x 5 06 el keshane - ^{chamaie} x
Sy, Serat a, p e n d
renter, on Beys el Massi
12 - d sy. Serat y Kaula
5335 6 kashana 5330 -
2h karia 5205 - 12 h m t c
u sy. Serat - come h x p
fo d n, u h 200" x 2 2 w,
581'0 (25'5) - v wa h Jaris
ben asad el kamil. p h m t
x, e d h - h, d x p. c e n d
on y o - n 100" x h u 4 e
y Hambe (u x) - 8 on x p 25' m
e y Hambe es sepp d 4' m
2 sy. Serat 9 2 h e i n v sy.
Hamam u Jaris -

121
p p e Kuda Dama e, e' s a g d a
x, el Masri (p lo), Abu Jatis
(5.1) - y u t y u m a n
p h e c a e y o r e j d u i c i n
Damar e Reda - Abu Jatis
2 h. k a r y y u m a n o m e d i
Djuzub 5 d j. d d a n -
2 h 23" v c a n e n a y J a a h
s o e s m n J l 80 y e m 3 k a
p t k e y t e l k a s s i - 2 1 2 h 23"
d l 67 e y d j e m i m e 2 J W n
d j M a h n a s e - e y J m a b a n
d m o j M a h n e s i, H a m b e 9
f u d a u n t. 14 -
2 h 50 d e e y B e y t k a s s i
e a n t o h 20, m e l v r a t i
d j e m i m e v n 800" w e e w e d
d B e y t e l k a s s i - e l e y a n t p e
o n y p u 8 - c u w e d (4' m
Reda -

Redå, Långag 15/16 Januar 1886

Redå 15/16 Januar 1886

+9'8 R, 593'0 (19'5)

360 34 40
359 29 40

3^h 44^m 48 34° 58' 30
46 13 34 30 40

47 22 35 0 10
49 15 36 53 40

50 18 37 20 0
51 27 36 43 20

52 34 37 13 40

53 49 38 49 10

54 38 39 10 0

55 43 38 33 20


360 35 30

359 29 40 +10'2 R, 5929 (148)

af 2 m b i h o p, Redå (2 45 en N 16 en

V. 20 2 20 b. 2 20 d

378



eb d h s d
112, 20 2 20
1 1/2

Redå 15/16 Januar 1886

Redå 15/16 Januar 1886 - Sunday

5925 (250) +18'4 R

359 29 40
360 35 30

7^h 9^m 40 104 58 10
11 0 104 6 40

12 36 104 24 0
13 42 105 40 30

23 15 107 5 20
24 30 106 9 0

5922 (250) +20'2 R -

7^h 36^m 5 108 33 0
37 8 107 33 20

38 23 107 40 40
39 28 108 50 50

40 30 108 57 10

41 33 107 55 30

| | | | | |
|----|----|-----|----|----|
| 42 | 50 | 108 | 1 | 30 |
| 43 | 43 | 109 | 10 | 30 |
| 44 | 50 | 109 | 16 | 0 |
| 45 | 50 | 108 | 13 | 0 |
| 46 | 39 | 108 | 17 | 0 |
| 47 | 44 | 109 | 25 | 30 |
| 48 | 52 | 109 | 30 | 0 |
| 49 | 53 | 108 | 27 | 20 |
| 51 | 8 | 108 | 31 | 0 |
| 52 | 12 | 109 | 39 | 30 |
| 53 | 20 | 109 | 41 | 50 |
| 54 | 22 | 108 | 38 | 10 |
| 55 | 22 | 108 | 40 | 20 |
| 56 | 59 | " | 43 | 10 |
| 58 | 38 | " | 46 | 15 |
| 60 | 17 | " | 47 | 50 |
| 61 | 10 | " | 48 | 15 |
| 62 | 1 | " | 48 | 50 |
| 62 | 57 | " | 49 | 10 |
| 64 | 20 | " | 49 | 40 |
| 65 | 17 | " | 48 | 40 |

66 38 108 42 10

359 29 30
360 35 20 592'0 (25'2) + 20 57

Azim di p) & Reda

266 di Terah

292 di El Esai - diamar & p...
di p...
310 - di p...
258 di naukal (p) & mihi...
di p...
di Jeremia & Hubbant - di naukal
di fat Hakim (cy) - (di)

232 di Tumid (p) & mihi...
di p & Reda

260 di El churalla...
266 di malah...
280 di Tah...
280-325 di...
340, di 700" & di p...
di p...
360, di Harja, di p...
12 km di...
20 di Selib...
di p...
27 di Dar Mas'ab...
72 di...
di p...

Hasim Effendi Kudsi
 - 5- Buharili Hadj Mohamed Effendi
 - Skuteri (in 1871, 1872)
 - 27 Hasim Eff. (1871, 1872)
 - 10 Halabiner Abdolkadir Eff. 2
 - 40 Hasim Eff. 42
 - 10 Kamakan Tewfik Bey
 - Harmonika, 1/2 A. Comandiger
 W. 38659 (No), 29946 (No) (No)
 1 Tafel 10, 16, 17, 18 & Kopf 1/2 m
 a 20 e, in 10 e
 1/2 2. Nov 25 = 16 e -

Refik Bey: Brief, Facsimile Nr. 253
 in Altar Sad ed Din Effendi
 egypti Dja'ar -

Colaghasi Rifat Eff.: 10 Be. Ahmed Fakhri
 Eff., 2 Mektub malkie n. Sultan
 Mahmud Turbessi - 1/2 m
 3 Tafel, 12 Bl. 31 1/2 -

Mektubdaji Bey:
 1 Tafel Mektubdaji Bey, 1/2 m
 17 Mektubdaji Bey, 1/2 m, 2 - 1/2 m

carsi Kibinde, cifti Kapamadji dukanında
 Colaghasi Hasen Effendi terzi Garab
 Oghlu
 1 jaguagim Militar augu
 Ahmed Eff. Juzhisi Fakih Nr. 1 & 2 Tafel Bey
 1/2 m, 1/2 m (1/2)

Sertabis Sadik Bey:

- 1) Jellibrist, Gspflust. von Dyroff, von
Karl Faulman (2, 1/2 m)
Hartleben Wien 1880
2 Exemplare (1/2 m, 1/2 m)
- 2) Grammaire arabe de Silvestre de Sacy
Tome II, 1/2 m (1/2 m - a 1/2 m, 1/2 m)
- 3) Goldmann'se inscriptions 2 Exemplare
- 4) m. 10, 8. Administration (1/2 m, 1/2 m)
- 5) 1/2 m - Bouiche's Bey 1/2 m
- 6) Principes de Grammaire generale de Silvestre de Sacy
- 7) Les livres de la philosophie morale (1/2 m)
- 8) force et matiere par Buchner (1/2 m)
1/2 m, 1/2 m (1/2 m, 1/2 m)
- 9 2 e v. 1/2 m 6 Blatt -

Şefik Eff. Nuri Posta Sarı

نورى پوسا سارى

مىنىستىر

Mahmud Bey Secetary of the
Nuri Bey Secetary of the
20 - Nuri Paşa

Jawer Kulajim Mehmed Effendi

1 Kasr Kollin

Scutari, tabudjileri itsinde

Konradji Mehmed Tsaks

25th July (1870) 22/1/1870

Hâsim Effendi

Comandari Selimiya Saruket

Paşa Hâsim Paşa

20 - 10/1870

Şefik Effendi (Colaghor)

Pathologie Chirurgicale

par Paul Reclus (40)

20 - 10/1870

20th July - Kaimakam Mehmed Ali Bey

49th July - Mehmed Ali Bey

(Part) ... Hâşim Abdullâh Hâşimî ^{Hâşimî} 143

20 - 10/1870

Murşid Kâdim
el Hâşimî, Ahmed Hâşimî

Hamdani's Spirit.

P. 155: ملاح ^و من در Talab bairam

P. 156: ^ص جبل ^و عرقلا ^و عرقلا ^و عرقلا
الشيخ ^و طالب ^و طالب ^و طالب ^و طالب
شوخلا ^و شوخلا ^و شوخلا ^و شوخلا
شعبه ^و شعبه ^و شعبه ^و شعبه
اخاله ^و اخاله ^و اخاله ^و اخاله
غوارض ^و غوارض ^و غوارض ^و غوارض

P. 167: شعبه ^و 8th N & Sauda
القلعة ^و 3th E & Sa'ba
عين ^و 5th S, 3-4th N & Sauda
عرقون ^و W. Ariran (Arir) & Nehm, 5th S
الاعلى ^و 7th E & Lahir
و NE & Sauda

وادي سديا ^و Ham & Ham
Ham & Ham & Ham

جبل هرايا ^و 3th N & Ham
الخولة ^و A & Horabi

جبل وسلا ^و E & Ham, SE & Galwa

الملاحي ^و NW & Wasat, 4th S

البناض ^و Kara of Hamen & J. Land, J. Land

جبل لوز ^و 3th E & Hamen

رقنه ^و 3th NE & Lahir

P. 167: اقبه ^و (اقنه) ^و 3th SE & Marasi
جبهه ^و 3th S & Ikha, ~ 2th S of Hami Nauf
عرقون ^و 6th E & Rahaba
مليل ^و Kara 3th W & Lahir, 1th S & Da'am
جبل الظاهر ^و Sa Marasi, Sa & Humaidat
البيضان ^و 2th N & Humaidat
الضلع ^و 1 1/2th S & Julul, 1th S
اتان ^و 1th S & Julul, 1th S

طفحان NE & Tan

مرقب 1/2th W & Tan

نيل 3th SE & Barat

عقيق 2th SE & Barat

شيفراء 1th SE & Markab

تغسل 2th S of Wadita, NE & Barat, 5th S of Sukayy

صمغ 5th SE & Adla

P. 168: عراد ^و Sa 5th E & Ma'in

P. 188: الصرحه ^و 5th S & Hiram

الشقيه ^و Hadjur, 1th S & Sahara Jul

P. 202: جبل جشم ^و Sa & Taleima, SE & Habir

P. 117: عوسجه ^و 15th NE & Eha, Sahran

P. 118: El Hamma (الحمة) ^و W. Bisa, SE (Sa & M) NE & Ebbah

~ 2th Hamma (ع), 3th E & Ebbah ~ Sahran 2nd

~ 3th Nahis (ناحيس)

~ 3th Hamma ~ 1st S & Sabja (J & Hammarum)

~ 5th S of Lotus Hammarum (inf)

الذارة ~ 1st S & Kabbat di. L. Kannon 1st S, 2nd S

القمبي ^و Alkam (علق) 1st S

ملاح ^و 3th E & Ebbah 2nd S & Hami Malik
1 1/2th W & Ftaha, xpo = Hami Malik

141
D. 118 i

~ ع /
 6⁶ N x Ebha - Ruffedal es Sam
 أثنائه 16⁶ W x Helala, - Beni Khalik
 جبل ~ ع 6⁶ N x Ebha - Beni Ahmar
 الخديبة - Beni Ahmar, 16⁶ E x 'ybil
 عينه م⁶ ع⁶ س⁶ س⁶ ل⁶ و Ridjal el Ma,
 Beni Mahail u T'hamat el wastā -
 وادي تدمر 12⁶ E x Ebha - Jahran
 وادي طلعات 24⁶ B. Bita -
 القرعاء ~ 4⁶ و 4⁶ م⁶ ع
 الكسقي 6⁶ S x Ebha
 غوص (غوص منغول) ~ 6⁶ ع
 ~ 6⁶ و Akabet es Samma -
 العين 2⁶ N x Ebha
 تنبوية - Ruffedal el Jemen - 8⁶ x Tem nija 08
 Beni Khalik Kaktan
 نونقاع 16⁶ W x 16⁶ N x Ridjal el Ma -
 Ruffedal es Sam (?)
 الحجاب 21⁶ E x 'al Asim, 8⁶ E x 'alkamir
 بنو ضرا - 8⁶ x Beni Ahmar
 الخلال 16⁶ W x Jahran
 حميرة 08 W x Fteha, 2⁶ N x 'ain
 ايداع 3⁶ S x Mahail -
 ~ f m⁶ x app 6⁶ x 2⁶ x 16⁶ x 2⁶ -
 ~ 10⁶ f m⁶ x app :
 W = Bahro
 E = Sarr
 S = jennā u simāl (?) !
 N = kibla u Sam

D. 118 ii

142
 W x Khelaba, 16⁶ N x Tafar
 5⁶ N x Sabi, 2⁶ S x Haiwan, Sabi
 3⁶ N x Haiwan, 16⁶ S x Harf -
 16⁶ E x 'abala
 16⁶ E x Harf, 2⁶ N x Harf
 36⁶ N x Harf
 12⁶ N x 'yjan 2⁶ N x 'arda
 9⁶ N x 'arkān 2⁶ N x 'arda
 12⁶ E x Harf -
 5⁶ E x Madāb, 12⁶ W x 'ila
 7⁶ N x Madāb, 2-3⁶ E
 ~ aktāf (m. al. l. ei)
 وادي حارف -
 D. 119: Rukāba - 16⁶ E x Sibām Jastim 2⁶ Harf
 ~ 16⁶ W x 16⁶ N x 16⁶ S x 2⁶ Harf
 ~ 16⁶ W x 14⁶ S x 16⁶ W x Mesyal
 ~ 16⁶ W x 'ardān x 16⁶ S x 16⁶ W x 'arda
 ~ 16⁶ W x 'arda
 2⁶ S x Harf, 2⁶ S x W x
 Wārik (8⁶ S x 8⁶ W)
 16⁶ S x Wārik
 D. 120: عين (عيني) 2⁶ S x Wādā, 16⁶ x Bahmān
 2⁶ S x Harf
 2-3⁶ S x Harf
 16⁶ S x Harf
 16⁶ N x Harf, 16⁶ N x Harf, 16⁶ N x Harf, 16⁶ N x Harf
 16⁶ S x Sabi - (Sawāt)
 4⁶ E x Ramid
 16⁶ E x Harf
 16⁶ S x Haiwan

١١٢: الحواري ١٦ N x Faka

ذوقين ١٢٠٠ 20° 30'

١١٣: الشرق ~ 11 N x Hadja

الولاء 46° N x Dofir (Hadja)

عولي ~ 11 N x Hadja, 1° SW x Hadja

2° 30' W x Dofir (Hadja)

البطنه 46° E x Sahara, - Ka'a, a N x Sida

W x 90° x Amada N

مخدر 2° E x Bata, 7° W x Hül, 12° N x Sida

جنوع 3° 30' W, 3° 30' W, 3° 30' W x Sahara

شوق صاف 2° 2' x Saraf 15

قلايه 2° 2' x Saraf, Sida, 2° 2' x

عيان 36° N x Hart;

~ 2° 30' SW x Kataba, 1° 30' x

١١٤: العشة 36° N x Farwa, 36° SE x Bahjan

قلاج 1° Saramat, Sida

رحبان 16° S x Sida

قولا 26° N x Sida

تبريزي 46° N x Sida

الشيخ 16° W x Sida

ولاي علاف 14° N x Sida, 2° Sida

جماع 9° 7' Bahjan, Batin, Augafa

جبل صير 14° W x Bahjan

يشق 46° E x Djim, 8° NW x Sida

بوسيان 16° W x Sida

انقلو 56° N x Sida, - 1° 30'

رايح 1° 30' x Haulan, 7° 30' x

عراس (عراش) 5-6° NW x Sida, 26° E x Sida

١١٤: وسه 2° 10' Beni Bahr, 1° 30' Haulan ¹⁴⁹

20° NW x Sida

ساقين 126° NW x Sida

خيمان 46° SW x Sida

العبال 12-2° N x Eba, Beni Akmar 66

كحلان (2° 30' W x Sida) Ma'mala, Beni Akmar

العرض 210° Beni Budjad, 2° 30' Wadi

Sahrân, 60° W. P. 1° 30'

آل بنو ثور 2° 30' Wadi Sahrân, 2° N x Eba

جبل عرد 8° 30' E x Sida

١١٨: طيب 1° 30' x Eba, Rafidat al Sam

أم مخدر 2° 30' x Misleja, 1° 30' E x Sida

2° 30' - 3° 30' - 4° 30'

١١٩: عقبه ضلع 1/2° E x Eba - 66° Eba, 1° 30' x

القوايع 2° 30' W. Dula, 60° Eba, 1° 30' x Sida

1° 30' x Wadi: Béd, Marrabe

1° 30' x Kisân - 1° 30' x Beni Soba

1° 30' x Wadi Rim - 1° 30' x 1° 30' x

1° 30' x Beni Samran x Kadâ Gâmid - 1° 30' x

1° 30' x Tubala, 1° 30' x el a'la, 1° 30' x

1° 30' x Rôsan (60° 30' x 1° 30' x), 1° 30' x

1° 30' x Rim tén, 1° 30' x 1° 30' x el asfal

1° 30' x Sahrân, 60° 30' x Beni Soba

كود (1° 30' Kôd) - 1° 30' x Tenda

1° 30' x 1° 30' x 1° 30' x Gaitân, 1° 30' x

1° 30' x 1° 30' x 1° 30' x Beni Taur, Beni

1° 30' x Budjad, 1° 30' x Ma'mala (60° 30' x 1° 30' x), 1° 30' x

1° 30' x Wadi Massirik, 1° 30' x Beni Sahrân, 1° 30' x Beni


7.114: غافه و ٢٢١ ربا و فاذا
 من الى و الى فاذا (1/2 P). - Haulan
 مينا و ٢٢١ ربا و راببان و فاذا
 كهلان - ٢١١٢١ م - كابلان - ١١٢
 ابلا - ٢٢١ جبل تافان -
 كفا ١٦ N ٢٢١ سسا و ملاح ابكاي
 عرو ٢٢١ N W و ساكن (٢)

7.69: حيران (١١٢ حيران ١١٢ ١١٢ ١١٢) و جبل لوكييا
 حاران

7.72: هله - ٢٢١ حيران Hasan, حيران حيران
 Mustaba حيران (١١٢١١٢١٢, ١١٢١٢١٢١٢)
 ٢ 1/2 P و لوكييا و 1/2 P و شاهارة
 فولية 4 و ٢٢١ حيران و ابس, ١١٢١٢١
 لالهيل, حيران حيران و حيران و حيران
 لوكييا و -

7.73: وادي حيران و حيران Hasan و حيران
 حيران حيران - حيران حيران و حيران
 حيران حيران (Ranif) - حيران حيران
 لوكييا و حيران حيران حيران - حيران
 حيران حيران و حيران حيران

وادي حيران - حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران حيران



7.80: حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران

7.81: حيران حيران حيران حيران

7.102: حيران حيران حيران حيران

حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران
 حيران حيران حيران حيران

Malisi e Kedah Amiriyah



102 Reda' ul' 17/5 .. 3 1/2"
 Musalla 3' 18" malla 4 1/2"
 [1900 (142)] f. midah
 4 1/2 malla (y. sh) ...
 wa e e y y y y y y
 o d , 4 4 / 10 a a , 10 , e 4
 Kirjat el Gu'kah (gu' fuka
 la) - 10 10 10 Kirjat Takah
 f. a. 2h - 36 h , m 10
 Jabal e e y Kharirah Ushid
 Jabal - m m m m m m
 61 , 23 , Jabal
 f. midah , e ka' ferd m m
 e 10 2 Takah y 10 x 9 1/2 NE

10 m (malla 9 1/2 ka) ferd
 5849 (194) - e e e e
 ka' ferd 4 1/2 h 10 m NE, e
 66 20 m 10 SE 1/2 SW
 10 1/2 m 10 1/2 ferd - 5 1/2 20"
 e 8 1/2 m 10 1/2 ka' ferd
 1 Kirjat Takah 10 1/2 m
 Keyt el Masri 10 1/2 m
 ka' 5840 (20.5) - 5 1/2 35 m
 10 1/2 e e e ka' ferd 4 1/2
 - 10 1/2 m 10 1/2 m - 10 1/2 m
 10 1/2 m 10 1/2 m 10 1/2 m
 10 1/2 m 10 1/2 m 10 1/2 m
 (5 1/2 1/2 e Keyt el Masri) f. 10 1/2
 m f. 10 1/2 m 10 1/2 m
 y 10 1/2 m 10 1/2 m 10 1/2 m
 10 1/2 m 10 1/2 m 10 1/2 m
 6 1/2 10 1/2 m 10 1/2 m 10 1/2 m
 6 1/2 35 m 10 1/2 m 10 1/2 m

Handwritten notes in the left margin, partially obscured.

581.8 (23.7)
Hekir 7h 43m
Mozogamm

Handwritten text in the first column of the page.

Handwritten text in the second column of the page.

Handwritten text in the third column of the page.

Handwritten text in the fourth column of the page.

Handwritten text in the fifth column of the page.

Handwritten text in the sixth column of the page.

Hakir 2 at 2 h get of
In epist e'it - ob' 23
s no g' s' p' om b'
Awd'a et 2p' 23, 25, 26
b' ut 2 - 5 17 22
s, s' at 23 e' f' 23

Handwritten notes in the left margin of the second page.

Handwritten text in the first column of the second page.

Handwritten text in the second column of the second page.



Handwritten text in the third column of the second page.

Handwritten notes in the left margin of the second page.

Handwritten notes in the right margin of the second page.

382

∞ 900
∞ 810
∞ 720



∞ 720
∞ 630
∞ 540
∞ 450
∞ 360
∞ 270
∞ 180
∞ 90
∞ 0

W-2 (Hakin)
in ...

...
= ...
...

Lehrerbücher im Handan's Exzerat

Part 53:

- 7.54: ...
- 7.55: ...
- 7.67: ...
- 7.68: ...

...

381

N. 3 (Hakir)

4300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 9, H 0 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

~~~~~  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 & Haki 9 20  
 20 Sirall 134  
 12 Jerim 2<sup>h</sup> 2<sup>m</sup>  
 (10 & Kedy el eslaf  
 n Jerim fo n 96, 20  
 n 4 - )  
 Je Jerim n Haki  
 re - 10 / w a u  
 'akil - 2 Kedy =  
 2 yph karri upo - 10  
 fo, jed kaum 20  
 2<sup>o</sup> n murad w 20  
 a u n 2 - Reda  
 n semsera, 2 suk  
 to ya - 10 n 7 2  
 ~ wa wadi Bey  
 ad 20 - 10  
 n katib takar 10 effe  
 20 - 20 n 10  
 24 n - 10 op 5 Temer  
 var 10 - ut 10 Haddi  
 Nadi (Mudri d' Dent)  
 n 10 - 10 n Kad d' Reda  
 2 n - 20 10 10

8. 68: بلد شرعي Taing, Udan, Jeop, Ghabl  
 Jedu Egi, bai Udan - Jeop 100  
 2<sup>te</sup> n, c o m' d' Lower 2 -  
 التجه (اب) 20 20 20 20  
 الميخنة 20 20 20 20 Udan  
 خلت ريمة il 20 Udan, 20 20 Udan 12  
 تغكر 4<sup>te</sup> 20 20 20  
 الجيب in Haki 20 20 20, 20 20 20 20 20  
 منو (20 20) 20 20 20  
 بخار 20 20 (20 20)  
 منظر (20 20) 20 20 20 20 20  
 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 مائة 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 ماضيل Himjar  
 جيب - 20 20 Hamam ali - 20 20 20 20  
 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 شجبان الجع Turan, Ma'ber 20 20 20 20  
 صوان 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 باب كلان 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 20 20 (Sanfar)  
 مخاب (madab), 20 20 20 20 Turan  
 عزم 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 بقلان 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 نقيل المود 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

ق. 68: صابع ~ W. Saham

(كزار) (س)

(مشار) (س)

قاع السيد ~ Err = Haima

د Dâhiliya - د Kawkabân, Adgir -

شبات ~ Adgir n Kawkabân -

ماضغ ~ Wâd' Rabû' ob = Rabû' Mâdih

بين افرع ~ W of Hadje -

مدع ~ W of Hadj' Hadj' us Kabl' es Feih

العسم ~ W of Hell Zâfin, ~ W of Meda,

Wâd' Sares - W of Sibâm n Hadje

W = Asam, nes, r p x Amrân n

Hadje = Kérin, r, r to W. Sares ob.

شاجد ~ W of Sais, 14 n Kawkabân

تيس ~ W of Hofâs, ob n W. Beni Hebas

المازع = Tawila Beni Hajjât (26 r ob  
x Tawila)

سارع ~ W of Sed' x Tawila

سبع ~ W of Habt, ob n Tawila

جبل شبات ~ W of S. n W. Mithân

~ W of Beni S. n W. Nebbi Sa'ib

مدقايه (مدقايه) = Beni Kais

فانشك ~ Beni Kais

ق. 69: طيام ~ W. La'a

شراق ~ W. La'a, ob

W of Miswar

ق. 69: الجبر (حتر) 2 W. Sâraf

ظلمة ~ W of Haudein, W of Sed' n W of

Mafkat, Sâk el Hamis, r, r, r, r

W = W of Tâlima - ~ W of Tâlima

Tuleima - W of Habûr

العمر ~ W of Haimat ed Dâhiliya

نمر (نمل) ~ W of Sârâki, Adje -

عيان ~ W of Sed' x Hadje -

عول ~ W of Sed' x Sârâki

وعيله ~ W of Sed' x Sârâki

خيلان ~ W of 'ûli, W of Hadje, W

الخلفة ~ W of Sed' x Miswar

خرن ~ W of Beni Sherwân

واحد حيدان ~ W of Haulân

أبدر ~ W of Lohâr

ق. 70: بنيت ~ W of Sukêk, Râda = 'Asit, W of W. (Benben) Wadi Mâraba (W)

جبل الأسود ~ W of Sandâ = W of Sûka, d 3<sup>re</sup> x Ebhâ

برك ~ W of (âpp) ~ W of Rakabe, Maghâs

كنه ~ W of Hali ben Ta'kâl ob (âpp)

بارق ~ W of Mehâil, d 6<sup>re</sup> x Spl, n Tihâm a,

~ W of Kofada n Umm el Djurm n

Mehâil.

ختع ~ W of Sumrân (âpp)

القرن ~ W of Beni Sâhar

عمران ~ W of 3-4<sup>re</sup> x Hat'am spl



P. 80: جبل مبین (Jumain) or 1/2 of Dubhān  
 عنس & cba & Damār  
 كومان & Rahama (رخا), or 2/3 of 2/3 of  
 -  
 دمار 100 -  
 بني وایش & Rahama & māt' āns.  
 جبل کداد 2/3 of Demī Tōlgān & Hīrrād, mārib  
 مراد - m. - 1/2 of 1/2 of mārib  
 جبل هجران 1/2 of 1/2 of Damār  
 حزمه -  
 Hāzm al Damādī  
 Ajāl Sa'īd of zamīffan Ajāl Djahm  
 (جم) & mārib.

P. 81: بلاد خیره (خی خیره 1) Hāwī Hīrre + 2  
 Tjāl Sa'īd & Demī Djabr (Khaulān)

P. 82: القفل or 1/2 of Hīrrān (خیره)  
 وادی حلالس & 1/2 of Wādī Warwar & Janā  
 = Ashab.  
 وادی خیش } 2/3 of 2/3 of  
 وادی بونیه Wādī Buēna }  
 بونان Hāwān }  
 حاوین in Hāwān.

P. 83: عقلا & 1/2 of Barat  
 (Rubn) & 1/2 of Barat, & 1/2 of  
 100 -  
 فراد & Hārid & 1/2 of فراد

P. 92: عرقب & 1/2 of mītāl Nīnā  
 وادی حلالس, 5-6 of 1/2 of Damār  
 عرقب & 1/2 of 1/2 of mītāl

P. 92: Bausān zamīffan Hādā's Zīrādye  
 & 1/2 of 1/2 of Istīl  
 (کافا) & Redā' (کافا)  
 وادی بروج & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی بروج & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی بروج & 1/2 of 1/2 of mārib

P. 93: وادی بروج & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی بروج & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی بروج & 1/2 of 1/2 of mārib

P. 95: وادی بروج & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی بروج & 1/2 of 1/2 of mārib

P. 102: عرقب & 1/2 of 1/2 of mītāl  
 وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib


وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib

وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib

P. 103: وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib

P. 105: وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib  
 وادی حلالس, & 1/2 of 1/2 of mārib

1.105: وادي اذروب: dt. Sa'fan a' Uyle e Beni  
 Arraf (Sa'fan 120) وادي حار  
 وادي حار 2 م 20 Sa'fan  
 المزنة 2 Mlad es Tulut, d 3 م 20  
 وادي حار e Mandia  
 120 يعابر d Beni Mukatil  
 الظهار - gafah e Beni Lo'f (e Maga-  
 riba)  
 العارضه (El Arda) 2 م 20 W. Sade  
 (شذب)  
 الرشمي e 2 م 20 Anis  
 حابان (Hababan, ا) 2 W. Dajan  
 حلس رشام in Lakab  
 عناصر (عنصر) e Beni Samail  
 مرياس  
 وادي حار e Sa'fan d 2 م 20 Haray  
 حديدية e d Hadife -  
 1.106: امان 2 م 20 d Hadje (Juk Amân)



ماينح  
 بيتاع  
 سوق النيس  
 حجاب  
 مرفق

1.106: بريش e Yyled Err (Haimet ed daki'ila)  
 بيتاع e Haimet ed daki'ila, 6 م 20 e  
 Mefhak, e Kibla e Fuk el Khamis  
 علسان 1/2 م 20 e Mefhak  
 قلان e Bau'an, e Sulai'ain  
 الحجاب e d 2 م 20 Mefhak, e d Alasin  
 جغل (جغل ا) 1 م 20 e Metre  
 جبل حلمان 2 Mlad Hamdan  
 1.107: خنطان d 3 م 20 e d 2 م 20 Nabbi Sa'ail  
 1.110: جبل صولان d 2 م 20 e Tafir  
 1.116: العجيرة d 3 م 20 e Sahrân e Kaktân (al'ajir)  
 1.118: Ekhâ e Tejje 6 م 20 e Ekhâ  
 e Mikhâil  
 Ekhâ e 2 م 20 e قبر حى الرنين  
 e d Sahrân e d 2 م 20 e بني اري عاصم  
 قنيه e Kaktân e Sahrân  
 بنو مالك e Ekhâ e Tejje  
 بنو صرار (مفر) (مفر)  
 1.119: تنوة e Beni Jehr e Beni Asmar  
 1.120: مخرم e 2 م 20 e Kinana  
 عبيد e 2 م 20 e 6 م 20 e Has'a  
 بني جونه 2 م 20 e 2 م 20 e 2 م 20  
 العرثين e al Htaris  
 ظهران 1 م 20 e Gâmid  
 عسفة e 2 م 20 e Mekka e Medina -

7. 125: جبل كجب جبل كجب  
جبل دقراز (دقراز) Harabe s neu  
Tobyán

جبل شحر جبل شحر  
ny ta a e, Jsbil

7. 133: عري وعلاء عري وعلاء  
2 s, 2, a / id<sup>c</sup>, or ac 102.

7. 134: الرعيه الرعيه  
Haidjät 108, 108 n Haidjät

صلابه صلابه  
2 ut ~ Graeffeld

ضبر ضبر  
~ 2 (2 v 2 2 2)

طلح طلح  
} 6 (2 v " 4)

عرقه عرقه (عرقه) 1  
dorn, am

خلقه خلقه (خلقه) 1  
ac dta 2 n 2, a -  
2 n 2, a 2 n 2

بقيله بقيله  
u r قلعه

قرظه قرظه  
n garbapflanz

انبه انبه  
~ 2 v d d d -

سلح سلح  
2 n 2, a 2 n 2, a -  
2 n 2, a 2 n 2, a -

غزبه غزبه  
2 n 2, a 2 n 2, a -  
2 n 2, a 2 n 2, a -

علاه علاه  
2 n 2, a 2 n 2, a -  
2 n 2, a 2 n 2, a -

جعدنه جعدنه  
2 n 2, a 2 n 2, a -  
2 n 2, a 2 n 2, a -

جعدنه جعدنه  
2 n 2, a 2 n 2, a -  
2 n 2, a 2 n 2, a -

خيله خيله  
2 n 2, a 2 n 2, a -  
2 n 2, a 2 n 2, a -

ضبر ضبر  
2 n 2, a 2 n 2, a -  
2 n 2, a 2 n 2, a -

2. 134: حرمه حرمه  
2 n 2, a 2 n 2, a -

7. 185: كتنه كتنه  
2 n 2, a 2 n 2, a -

7. 186: ريشه ريشه  
2 n 2, a 2 n 2, a -

ثافت ثافت  
2 n 2, a 2 n 2, a -

Hamt s El Hable, 3 r 2 n 2, a -

Reida, Hai wân 2 n 2, a -

Reida, Hamr, El Hable, Hai wân

2 n 2, a 2 n 2, a -

3 r 2 n 2, a -

7. 196: لزج لزج = Oranga

7 d Granatapfel (Rumän) 2 n 2, a -

Reda 2 n 2, a -

2 n 2, a 2 n 2, a -

2 n 2, a 2 n 2, a -

7. 197: قفلى قفلى = نقل = قفلى  
2 n 2, a 2 n 2, a -

قذ قذ = كرات ~ frontalgewicht, 2 n 2, a -

كشك (كشك) = Kupfer

7. 198: فصح فصح = fath

فق فق = Atka = e 2 Lem (Bittun) 2 n 2, a -

2 n 2, a 2 n 2, a -

2 n 2, a 2 n 2, a -

علس علس = Grotte 2 n 2, a -

2 n 2, a 2 n 2, a -

رايب رايب = Milch (Tikama)

قرع قرع = Jannan & Dubbe (2 n 2, a -)

قديه قديه  
2 n 2, a 2 n 2, a -

7. 199: فسفون فسفون = Adra' (2 n 2, a -)

Meisane = Amlas

Hunta = Ahras

Jemre 2 n 2, a -

P. 199:

*عتر* = *colpa*  
*عتر غبراء* = *عتر* = 10, 1 Durra, 10/-  
 كيون ~ ginsing, ca n d r d.

جبلان = *Siemang*  
*جبلان* = *Siemang*  
 4 *جبلان* = *Siemang* 4 *Siemang*  
 (ca saat), 4 P: 4 d d d d, P  
 d d d d, 4 e j e e d d -

P. 200:


بن. *بن* = *Ben*  
 4 *بن* = *Ben* 4 *Ben*  
*عشر* = *Siemang*  
 قالب = *Siemang* 2 *Siemang* - *Siemang*  
 2 *Siemang* - *Siemang* 2 *Siemang*

P. 201:

*عیشان* = *Siemang*  
*عیشان* = *Siemang*  
 2 *عیشان* = *Siemang* 2 *Siemang*

P. 108:

*زنا* = *Siemang*  
*زنا* = *Siemang*  
*زنا* = *Siemang*



*سريان* = *Siemang*  
*سريان* = *Siemang*  
 2 *سريان* = *Siemang* 2 *Siemang*  
 4 *سريان* = *Siemang* 4 *Siemang*  
 2 *سريان* = *Siemang* 2 *Siemang*

*173*  
 Rubú' ben el Haukí,  
 2 *Djáhana* 2 *Otuma*: (ca *Siemang*)

*Rubú' ben el Haukí*, *Djáhana*, *Hidár*, *Ma'ber*,  
*Túrân*, *Medinet el Abíd* (= *Sál*, *el Hân*)  
*Robú' Otuma* -  
 (*Djáhana* 2 *Saná* = *Siemang*) 4 *P* - *col*  
 4 *Sejján* - )

P. 109:

*عزوب* = *Siemang*  
*عزوب* = *Siemang*  
 2 *عزوب* = *Siemang* 2 *Siemang*  
 4 *عزوب* = *Siemang* 4 *Siemang*  
 2 *عزوب* = *Siemang* 2 *Siemang*

P. 109:

*بئر العزم* = *Siemang*  
*بئر العزم* = *Siemang*  
 2 *بئر العزم* = *Siemang* 2 *Siemang*  
 4 *بئر العزم* = *Siemang* 4 *Siemang*  
 2 *بئر العزم* = *Siemang* 2 *Siemang*





7. 113: *Shra Sahara*  
شرف و شرع و شرع  
شرف و شرع و شرع  
شرف و شرع و شرع

7. 114: *àtkâm*, 1/2<sup>o</sup> *da mikhlaif* (مخلف)

بنو ثور  
الانثور  
} *u - Haulân Kudâ'a*

*da Dahjân* (ف) *da Nakim*  
شاهر

*da Haulân Kudâ'a*

7. 115: جبل شوك و شرع و شرع  
جبل شوك و شرع و شرع

7. 126: *da qunû*, *da qunû*, *da qunû*  
*da qunû*, *da qunû*, *da qunû*  
*da qunû*, *da qunû*, *da qunû*  
*da qunû*, *da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*, *da qunû*

7. 81: *da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

7. 82: *da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

7. 82: *da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

7. 108: *da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

7. 115: *da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

7. 126: *da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

7. 128: *da qunû*, *da qunû*

7. 154: *da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

7. 168: *da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

*da qunû*, *da qunû*

P. 69: حرون (جوان و جوار) 16° NW & Hadye -  
 قیلاب / Kismat, Series of NW & Mitwer  
 1/2 NW. Series. ge Abfang -  
 16° SW & Jesid, NW & Gule  
 جبل خوشان NW & Sahara (17°)  
 غلمان 5-6° SW & Hamo, SW & Sude & S,  
 NW & Kat & -  
 Wada'a, 6° SW & Hamo  
 جبل نو عبد 3° SW & Wada'a, 2° SW & Hut  
 + 2 on plain ad NW & Lume  
 اخرق <sup>milka</sup> 3° SW & Dj. Nu'mi ad  
 نجد (جبله و جبله) 5° SW & Dj. Nu'mi  
 ad 1 1/2° SW & Hadye -  
 شغب عذرا 8° SW & Hut  
 قرظ 3° NE & Tokafa, 2° NW & Sahara -  
 حيران 14° W & Sahara  
 قنبر جواد 1° SW & Hiran, 7° SW & Haddel  
 مفرق 2° NW & Mer, Sada, Haddid, 2°  
 N & Sahara  
 مرارة 2° W & Haddid, Hadye & Dj. Nu'mi  
 Qwer, 1° NNE & Sahara  
 حیدان NW & Haulan, 2° W & Sadeh  
 دغش (ع و دغش) 5° SE & Dj. Nu'mi Qwer,  
 S of Saffian 10° -  
 الكه 3 1/2° SE & Harad  
 عدوان (جوان و جوار) NW & Sadeh:  
 Harad, Hiran, ad NW & Sadeh  
 NW & Sadeh NW & Haddel -  
 حیدان 3° SE & Saken, SW & Sadeh  
 سابقین 16° NW & Sadeh

حیدان 46° SW & Saken  
 شغب حیدان 36° SW & Haidan  
 جبل مهران 56° W & Haidan  
 حیدان / Razih, Khaulan  
 حیدان 46° SW & Razih  
 جبل راح 3° SW & Sada, 1° SW & Abu Aris  
 وادی بولمان 2° SW & Haulan, NE & Razih, 36°  
 S & Gamo  
 وادی غمر 2° NW & Sada (Gamo)  
 نو حیدان 1 1/2° NW & Sada (NW & Nu'mi)  
 P. 70: الأبقور 56° NE & Sada, S Hadye  
 P. 71: شرقه 36° NE & Sadeh & Shul  
 شلال (شلال) Hubban, 36° SE & Series - NW  
 NW & Sadeh NW & Sadeh NW & Sadeh  
 بعدان NW & Sadeh  
 حیدان 2° SW & Hadye, 2 1/2° SE & Sadeh  
 حشران (حشران) (Hushan) 36° SW & Ma'ber  
 36° W & Damars 46° & Turan NW  
 P. 72: کلابی (کلابی) 2° SW & Haddid  
 P. 73: ضیفة الشربین 5° SW & Harad, 46° SW & Hadye  
 Hadye (mahariz), NW & Samita, 1° SW  
 Abu Aris  
 وادی الکلی 2° NW & Hadye  
 حیدان 26° NE & Abu Aris  
 وادی حیدان NW & Hadye - NW & Hadye  
 66° NE & Hadye, 36° NE & Abu Aris  
 NW & Hadye - NW & Damars - NW & Hadye  
 NW & Hadye - NW & Hadye  
 حیدان NW & Hadye - NW & Hadye

بوسيان } 2 وادي هنيء جوماء 2 وادي  
 بحر  
 وادي لينة 2 وادي Masârha, 2 وادي Abû 'Arîs  
 وادي تعش 2 وادي Harad, 2 وادي  
 وادي خلب 2 وادي Tasâr, 2 وادي هنيء

hohammad -

P. 80: 2 وادي Harad, 2 وادي Abû 'Arîs  
 2 وادي Hârib, 2 وادي Redâ

5 وادي Redâ

قاييف (kifa) 2 وادي Murâd, 2 وادي Redâ

2 وادي Mârîb, 2 وادي Bêhân

2 وادي Hârib, 2 وادي Sa'îd

2 وادي W & Mârîb, 2 وادي Sa'îd & Mârîb

2 وادي - 2 وادي - 2 وادي - 2 وادي -

P. 81: 2 وادي القوقل 2 وادي Harîb 2 وادي Hârib 2 وادي

Raḡwân

2 وادي Medjzir

2 وادي Lâhir

2 وادي Madâb, 2 وادي Hirrân 2 وادي

2 وادي Hirrân - 2 وادي Khairwân

P. 82: 2 وادي Masjâb (Hadâr) 2 وادي - 2 وادي

2 وادي Hijam - 2 وادي (Arhâb)

2 وادي - 2 وادي - 2 وادي -

2 وادي Hirrân

2 وادي 1/2 وادي Khairwân, 2 وادي -

2 وادي 1/2 وادي Khairwân

P. 82: 2 وادي 1/2 وادي Se & Hûl 2 وادي Khairwân 181

2 وادي 2 وادي Hûl

2 وادي 3 وادي Hûl

2 وادي Hijâr, 1 وادي Ramîd

2 وادي Ramîd - 2 وادي Kais

2 وادي Lâhir (2 وادي)

2 وادي - 2 وادي -

2 وادي Al Sâlim - 2 وادي Dukma, 2 وادي Barat

2 وادي Sa'ida, 8 وادي - 2 وادي Sa'ida

2 وادي Al 'Amâr

2 وادي Damâd & Sa'ida, 2 وادي

(2 وادي - 12 وادي)

2 وادي Madâb, 1 وادي Suk Da'âm

2 وادي Barat 2 وادي

P. 83: 2 وادي Lâhir (2 وادي) 1/2 وادي

2 وادي Suk Da'âm

2 وادي W & Madâb 2 وادي Madâb

2 وادي W & Medjzir, 2 وادي

2 وادي Rukm, 2 وادي Madâb -

2 وادي Suffân

2 وادي Rukm, 2 وادي Hârîb

2 وادي (2 وادي) & Ammâr, 2 وادي Sa'ida

(2 وادي - 13 وادي)

2 وادي Hârîb

2 وادي Hârîb 2 وادي Rukm

2 وادي Hijâm

2 وادي Suffân, 2 وادي W &

2 وادي Lâhir 2 وادي Da'âm, 2 وادي Se & Abû

2 وادي - 2 وادي Arhâb & Abû

283: الحاضنة - 6<sup>h</sup> E & Zahir, ~ to Hadram 1/2<sup>h</sup> W & Marāṣi, f. s. d. ashab

واغر ~ 1/4<sup>h</sup> SE & Ashar, ~ to  
E & Ashar 2 Wadi Madāb, 6<sup>h</sup> N &  
Zahir; f. s. d. ashab, f. s. d. ashar, ~  
Hamām āli -

منعمان 4<sup>h</sup> N & Zahir, 4<sup>h</sup> SE & Marāṣi -  
حلاف 3<sup>h</sup> SE & Damady, 5<sup>h</sup> N & Barat

قصاب 2<sup>h</sup> SE & Halaf, ~ to 2<sup>h</sup> SE  
الحناجر 1<sup>h</sup> ENE & Jaida 2 Madāb Wāila

لهو 4-5<sup>h</sup> E & Jaida

رحبان 1/2<sup>h</sup> SE & Jaida

صبيان 4 1/2<sup>h</sup> N & Jaida

الشيخ 1/2<sup>h</sup> SE & Jaida

نسر 8<sup>h</sup> SE & Jaida

284: صبيحة 7<sup>h</sup> SE & Zahir, E & Hāwa

العبر ~ 4<sup>h</sup> SE & Mārīb -

بنو حارثه 1/2<sup>h</sup> SE & Bēhān

صبح ~ Beni Hārītā, ~ to E -

285: صيغ 2<sup>h</sup> W & Hadramaut, 3<sup>h</sup> E & Mārīb -

~ to Mārīb Karab (= Karab), ~ to Hadramaut  
& Miskās (see vol. 1 NNE & Hadramaut, 1  
at Mārīb in vol. 1 Karab)

العبر ~ to Beni Hārītā, ~ to 2<sup>h</sup> W & Hadramaut

بنو بني 2<sup>h</sup> E & Bēhān

نسب ~ Miskās & Hadramaut

286: قاع الارضين ~ Hadramaut & Reida -

حورة 2 SE & Beni Hārītā

قارة 6<sup>h</sup> (SE) & Haura

286: وادي حوت 16<sup>h</sup> W & Abt  
القارة 1/2<sup>h</sup> E & Sibām - Mārīb & Haura

287: حذبة 5-6<sup>h</sup> SE & Sibām

النجير 3<sup>h</sup> W & Sibām

المزينة 5<sup>h</sup> SE & Sibām

دعوان 7<sup>h</sup> SE & Sibām

العجز 4<sup>h</sup> SE & Teris

تريس 6<sup>h</sup> SE & Sibām

يوبة (ثوب) 12<sup>h</sup> SE & Teris

الرجل 1<sup>h</sup> SE & Sibām

ريدة العباد ~ to Reida 2<sup>h</sup>

SE & Reida el Ybād -

شبو 1 1/2<sup>h</sup> SE & Bēhān, 3<sup>h</sup> SE & Sibām

2 1/2<sup>h</sup> SE & Mārīb -

288: الكسر 1<sup>h</sup> SE & Sibām

Mārīb = Ksar Miskās - 1<sup>h</sup> SE -

سدية ~ to 2<sup>h</sup> SE & Dunay, 2<sup>h</sup> SE & Mārīb

289: بني علي 12<sup>h</sup> SE & Beni Tolayān

جبل دقرار 2<sup>h</sup> SE & Mārīb, ~ to Ksar Nimrān

~ to Mārīb ~ to Mārīb

الروح ~ Beni Sghor of Ajāl Sa'id's Ajāl

Sghor - 2<sup>h</sup> SE & Mārīb -

290: سكر ~ to 2<sup>h</sup> SE & W. ady bār & Sankhān

291: غرق SE & Hurrān 2<sup>h</sup> SE & Wadi S'nābā

292: صافر (Jāfar) 2<sup>h</sup> NE & Hurrān -

الحريز 14<sup>h</sup> W & Hadra, 2<sup>h</sup> SE & Beni Ka'is

f. s. d. Jaleil

D. 114: وادي اربيع 66° S d Jarda

بني كلبين - Shār  
الانبار - <sup>2</sup>  $\frac{1}{2}$  N & Daniady, as NW d

D. 117: <sup>Handan Wf</sup> قاضي & Waïla

جبع و جوم - <sup>od.</sup>  $\frac{1}{2}$  NW d Waïla  
جبل خليقا  $\frac{1}{2}$  NW d Waïla, Mahāsima.  
(NW)

الهدرك NW d Habb, 2 NW d El Suleimān

البيتة (Syr & Jeltimma) ENE d Habb

$\frac{1}{2}$  Jām & Dakma, NW d  
 $\frac{1}{2}$  NW d Mitihāf d Kess - Hadramawt  
NW d m NW & E d Jām

بيرتي بير NW d Rāhama NW d Habb  
E NW d NW d Khab d Jām

Wādī Aubal  
12° N d Aubal, 2° NW d Musīnka

شرجاب NW d Halis (شرجان 1)

البيضاء N E d Sandjāb

قاع لبة (لبنه & لبة, as NW d) NW d

SE d Zāhir, NW d Baidhā  
وادي لسان NW d Harīl Khawlān, NW d  
Raghwan

الجفرة d Raghwan & Hagm

عينه & عينه NW d Wādī Aubal

D. 125: جبل صلع 2 NW d Rima d Wādī Anis

هفنون NW d Hamī d Addād & Dami Sjebr (114)

عراش NW d Marwan & Jarda, NW d

Oruini

1889

Nandunide  
39 = 334

Fiadoof

d Sjōf (Harim NW)

\* 40 = 262

(2 d NW d S. Kas rgl)

41 = 263

6 d NW d S. Kas rgl (2 d NW d S. Kas rgl)

\* 42 (336)

43 (337)

Wādī anū Harim

44 (338)

45 (339)

46 (340)

Saudā

47 (341)

Mānā

48 } (342)

Hsinen NW d Mānā

49 }

50 Juff d 343

Saudā

51 } = 309

Saudā

52 }

53 m marmar d Sjōf - 344

54 NW d Wādī d Harim NW d Gaimān (345)

55 NW d Kess d Zardān (Tajār 346)

10/1, out ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~  
12/1, ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~  
14/1, ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~

76<sup>z</sup>  
55<sup>z</sup>  
148<sup>z</sup>

Bronze n andra 7/11 1879

- a) Bronzetafel, 2 n 2 sand 1/1, 6
  - 3/4) ~ R Hebisass, f d sat - 1/1 n
  - b) 3/4) s d'ar am stob & sand e n n  
mairik b
  - b) - Bronzetafel, 1/1 n 2, sand 1/1 (1/1)
  - c) ~ blinnad Bronzetafel n 2/1
  - d) ~ Bronzetafel s Hironan
  - e) ~ Bronzetafel s 2/1 n d)
  - f) Bronzetafel n 1
  - g) Linjarkaff Bronzetafel s
  - h) Linjarkaff (2) Linjarkaff s
  - i) ~ 1/1 Heltatfel s 2/1 e Siderholz  
(yll e rids) - n Hironan
  - j) ~ blinnad Bronzetafel s 2/1 n
- n / 4300mk + 600 m

Rinus:

- Zettelnummer Fundort & Nr.
- 1 } Es Sandâ 282
  - 2 } Es Sandâ 282
  - 3 } Es Sandâ 282
  - 4 Main, a der Thor 283
  - 5 Es Sandâ 284
  - 6 " " 285
  - 7 " " a Maukal 286
  - 8 } Kharibet Harim 287
  - 9 } 18. u. 6. 15. (gr. u. 10. u. 6.) 288
  - 10 Main 289
  - 11 290 u. 2 a Sirwah e Rijam
  - 12 Fundort s. u. gu Arab 291
  - 13 " " " " 292
  - 14 Sana 293
  - 15, 15', 15" Main 294
  - 16 " " 295
  - 17 " e Harim 307
  - 18 \*Main 296
  - 19 Es Sandâ 297

- Fundort
- Sirâka 298
  - Inabba
  - Main
  - \*22 " Es Sandâ 299
  - 23 " Sirâka 300
  - 24 " Es Sandâ 301
  - 25 " Hadakân 302
  - \*26 Copin n'fat 303
  - 27 } Fundort 303
  - \*28 } 304 Sana a u. 10. u. 6. 2-
  - 29 Main 305
  - 300 a 2k Hebrus e Sandâ
  - 31 u. 2k Harim
  - 32 Kinosopp gu e Gof (Sandâ e Main)
  - 33 Djafozopp aus Sandâ (Harim)
  - 34 Midymere " "
  - 35 Kopf " "
  - \*36 u. 27 u. 10. u. 6. m. m. n. u. 6. gu 2. s. a. b. a. b. e. Handlân
  - 37 e. b. e. m. l. l. - 306
  - 38 u. Ka'a e Barâkis - 333



Jalil

|       |                                              |                           |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 17/11 | usud, utail                                  | 24 <sup>h</sup>           |
| "     | Lohn Jalil, Muharran                         | 5 <sup>h</sup>            |
| "     | ali                                          | 3                         |
| 18/11 | usud & C 16 <sup>h</sup> m 27 <sup>h</sup> Z | 35 <sup>h</sup> Z         |
| 19/11 | usud d'go 19/11 u                            | 40 <sup>h</sup> Z         |
| 20/11 | " " 20                                       | 39 <sup>h</sup> Z         |
| 21/11 | C 11 <sup>h</sup> ab usud utail u rhu        | 43 <sup>h</sup> Z         |
| 22/11 | usud d'go usud                               | 48 <sup>h</sup> Z         |
| 23/11 | " " " "                                      | 44 <sup>h</sup> Z         |
| 24/11 | usud d'go usud (RB) u rhu                    | 47 <sup>h</sup> Z         |
| 25/11 | " " " "                                      | 49 <sup>h</sup> Z         |
| 26/11 | " " " "                                      | 52 <sup>h</sup> Z         |
| 27/11 | " " " "                                      | 46 <sup>h</sup> Z         |
| "     | Jalil Lohn für Tafel - 17 <sup>h</sup> K     | 4 <sup>h</sup>            |
| 28/11 | usud d'go usud - u rhu                       | 38 <sup>h</sup> Z         |
| 29/11 | " " " "                                      | 41 <sup>h</sup> (711)     |
| 30/11 | " " " "                                      | 50 <sup>h</sup> Z         |
| 1/12  | " " " "                                      | 20 <sup>h</sup> Z         |
| 2/12  | " " " "                                      | 21 <sup>h</sup> Z         |
| 3/12  | " " " "                                      | 24 <sup>h</sup> Z         |
| 4/12  | " " " "                                      | 25 <sup>h</sup> Z         |
| 5/12  | " " " "                                      | 46 <sup>h</sup> Z         |
| 6/12  | " " " "                                      | 52 <sup>h</sup> Z         |
| 7/12  | " " " "                                      | 39 <sup>h</sup> - 1 hagen |
| 8/12  | " " " "                                      | 42 <sup>h</sup> Z         |
| 9/12  | " " " "                                      | 47 <sup>h</sup> Z         |
| 10/12 | " " " "                                      | 29 <sup>h</sup> Z         |
| "     | Jalil & Ali Tafel für                        | 17 <sup>h</sup> K         |
| 11/12 | " " " "                                      | 55 <sup>h</sup> Z         |
| 12/12 | " " " "                                      | 57 <sup>h</sup> Z         |
| 13/12 | " " " "                                      | 72 <sup>h</sup> Z         |
| 14/12 | " " " "                                      | 79 <sup>h</sup> Z         |
| 15/12 | " " " "                                      | 24 <sup>h</sup> Z med     |
| 16/12 | " " " "                                      | 45 <sup>h</sup> Z med     |
| 17/12 | " " " "                                      | 2 <sup>h</sup> med        |
| "     | Jalil, Tafel                                 | 12 <sup>h</sup> Z         |
| "     | ali                                          | 4 <sup>h</sup> Z          |
| 18/12 | " " " "                                      | 46 <sup>h</sup> Z         |

refx Kult., Kabul, Hamra, 62, 1, 18, 1911

Großta 6 30/11 (1200) - 400<sup>h</sup> -  
 Dorf 7 2/2 6 ab 9/11  
 Lohm 35<sup>h</sup> 2 6 ab 6/11  
 Raffar 18/11 10<sup>h</sup> 1, Rollen 3 Awak  
 Großta 24/11 (14<sup>h</sup> 22/11) 6 m byal + 2  
 Großta 27/11 (1800) m p 27/11 (60<sup>h</sup> 300)  
 " 3/12 35<sup>h</sup> 2 (18 m kjal, 60 m w 2)

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Probantg                          | 44 Z                            |
| Rhury                             | 8                               |
| Masamir                           | 14 <sup>h</sup> 5               |
| Pulver & Sali                     | 10 <sup>h</sup> C               |
| Hariba & Saqat & Musama           | 11 <sup>h</sup> 21              |
| Sabiki & Langor, & Sukurid        | 10 <sup>h</sup> 9 <sup>h</sup>  |
| Jahar & Taktin                    | 15 <sup>h</sup> 6 <sup>h</sup>  |
| Sukar & Cyrotti, Ye & Janko       | 12 <sup>h</sup> 15 <sup>h</sup> |
| ~ 1100                            | 25 <sup>h</sup> 20 <sup>h</sup> |
| Sole                              | 17 <sup>h</sup> 17 <sup>h</sup> |
| Husin Eff Jemari 5 <sup>h</sup> m | 24 <sup>h</sup> 25 <sup>h</sup> |

Zaphira  
 Hasim, Vali, Omer, Mutessary, Refat  
 s Refat Eff, Refat Bey, Sartabid, Halil  
 Jalil Eff, Omer Eff, Must Eff, Rosenfeld  
 317.57.60 = 5 T 17<sup>h</sup> 11<sup>h</sup>  
 180  
 256  
 67<sup>h</sup>

17/11 20/11 21/11 22/11 23/11  
 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 31/11  
 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12

97 1/2  
 14 1/2  
 75 1/2  
 61

1/11/11

70% 4th  
 86% 51  
 10 2  
 - 33% 35  
 52 19%  
 104% 6  
 54%

1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 31/11

72% 45  
 31 45  
 26 45  
 43% 34 1/2  
 29% 34 1/2  
 10% 2

1/11/11

78%

45

20

19

34 1/2

3

2

2 1/2

4

1.21

6

8 1/2

1 1/2 1/4  
 20 3/4  
 1 28  
 2 3  
 7 1/2 22 1/2 5 1/2 7 1/2

28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12


| 19/11            | 20/11   | 21/11            | 22/11   | 23/11 | 24/11 |
|------------------|---------|------------------|---------|-------|-------|
| 3 Georg. 6 1/2 D | 4 1/2 D | 6 2 D            | 6 1/2 D | 6 1/2 | 6 1/2 |
| 3 m 4 1/2 D      | 8 le    | 8 le             | 8 le    | 8 le  | 8 le  |
| 9 2 Lem          | 11 Co   | 2 1/2            | 2 1/2   | 2 1/2 | 2 1/2 |
| 7 8 le           | 1 1/2   | 2 1/2            | 2 1/2   | 2 1/2 | 2 1/2 |
| 2 2 m            | 2 1/2   | 2 1/2            | 2 1/2   | 2 1/2 | 2 1/2 |
| 1 1/2            | 2 1/2   | 2 1/2            | 2 1/2   | 2 1/2 | 2 1/2 |
| 1 AB             | 6       | 1/2 + 1/16 = 432 |         |       | 2 1/2 |

24/11 77% 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 31/11  
 13/11 7 1/2 8 1/2 8 le 8 le 8 le 8 le 8 le  
 2 2 2 2 2 2 2  
 2 2 2 2 2 2 2  
 7/11 2 2 2 2 2 2 2  
 13/11 2 2 2 2 2 2 2  
 10 10 10 10 10 10 10  
 40 40 40 40 40 40 40  
 3 3 3 3 3 3 3  
 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%  
 8/11 2 2 2 2 2 2 2  
 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%  
 4 4 4 4 4 4 4  
 1 1 1 1 1 1 1  
 2 2 2 2 2 2 2

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12

Topic Makers

0000  
4A60  
1A100  
X#4  
0A14  
214



2444. 4 9 4 2 A | 4 4 9 > A 00 | 4 A A | 1 9  
2 2 1 2 | 2 0 0 > 4 00 | 2 4 4 2 1 8 4 9 0 2  
> X 3 00 | 0 2 > 4 4 | 4 8 4 4 4 | 0 4 4 4 1 | 4 4 4 4  
4 0 7 | 0 4 > 4 4 | 1 4 | 4 7 0 0 0 | 4 > 4 00 | 0 4  
4 | 4 > 4 7 4 | 4 4 9 4 | 4 4 > 0 | 4 7 | 8 X 8 9 | 2 2 0 9 2  
X | 4 0 4 00 | 2 | 4 7 4 | 2 | 7 | 4 | 4 4 > 2 | 2 X 8 0 | 0 0 7 4

